

اللہ

طیب اللہ

جلد بارہ

- اللہ تعالیٰ کی قدر دانی
- اخلاص کی برکات
- توبۃ النصوح
- عزت دین میں ہے
- اسلام میں نکاح کا تصور
- تباہ کن موسیقی
- قوت ارادی
- ہدایت اور گمراہی والی تجلیات

پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی علیہ السلام

besturdubooks.wordpress.com

223 سنت پورہ، فیصل آباد

+92-041-2618003

مکتبہ پیر الفقیہ

خطبات فقیر

جلد ۱۲

لذائقہ

محبوب العلماء و الصالحہ

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی علیہ السلام

محمد حنیف نقشبندی

ترجمہ




+92-041-618003

مکتبہ الفقیہ
223 سنت پورہ فیصل آباد



نام کتاب	خطبات فقیر (جلد ۱۲)
از افادات	حضرت مولانا سید نور الحق رابع نقشبندی مدظلہ
مرتب	محمد حنیف نقشبندی
ناشر	مکتبۃ الانقیس 223 سنت ۱۰۰۰ فیصل آباد
اشاعت اول	جون 2005ء
اشاعت دوم	جنوری 2006ء
اشاعت سوم	نومبر 2006ء
اشاعت چہارم	اکتوبر 2007ء
اشاعت پنجم	جون 2008ء
اشاعت ششم	فروری 2009ء
اشاعت ہفتم	جولائی 2009ء
اشاعت ہشتم	فروری 2010ء
کمپیوٹر کیوزنگ	فقیر شاہ محسنو نقشبندی
تعداد	1100



فطر السامع

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
	قرضِ حسد دینے پر اللہ تعالیٰ کا اظہار	۹	عرضِ ناشر
۳۵	خوشنودی	۱۱	پیش لفظ
۳۶	روزہ دار کی قدر و منزلت	۱۵	① اللہ تعالیٰ کی قدر دانی
۳۶	جس کا عمل ہو بے غرض	۱۵	قدر دانی کسے کہتے ہیں؟
۳۷	زبیدہ خاتون پر نظرِ کرم	۱۶	ایک بھٹی کے بدلے دو آسانیاں
	ایک بت پرست کی پکار اور اس کی	۱۶	اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قدر
۳۹	قدر دانی	۱۹	سچے رب کا سچا وعدہ
۵۰	بختیش کا پروانہ	۲۱	اللہ تعالیٰ کی قدر دانی کی مثالیں
۵۰	جہنم سے آزادی کی خوشخبری	۲۱	سیدنا ایوب علیہ السلام پر لطف و کرم
۵۱	گناہوں کے ریکارڈ کا خاتمہ	۲۳	مشاطہ اور بی بی آسیہ پر نظرِ عنایت
۵۲	لحہ و لکریہ		سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر انعامات
۵۷	قریبی رشتہ داروں کی قدر کریں	۲۸	خداوندی
۶۰	شیخ کی قدر و منزلت	۳۰	بی بی ہاجرہ کی توکل اور اس کی قدر دانی
۶۰	پیر استاد سے بدگمانی	۳۱	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کی قدر دانی
۶۱	ایک ناقابلِ عمل مشورہ	۳۳	حضرت زید رضی اللہ عنہ پر عنایت و بخشش
	نعت کی ناقدری پر عبرتِ خاک سزا ملنے کا	۳۳	حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید کا مقام
۶۲	والدہ		حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بے مثال
۶۳	بد و عادی نے اور لینے سے بچیں	۳۵	حوصلہ افزائی
۶۳	پیارے پروردگار کا پیار بھرا پیغام	۴۱	حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر شفقت و مہربانی

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۱۳	عقل کی پہچان	۶۶	کریم پروردگار کے کرم کی انتہا
۱۱۵	اللہ کا در اور اللہ کا زر	۶۷	ایک سبق آموز واقعہ
۱۱۵	ہر عمل کی قیمت ہوتی ہے	۷۰	دارالعلوم جنک..... منزل کی طرف
۱۱۶	من ترا حاجی جو کیم تو مرا قاضی بگو	۷۰	رواں دواں
۱۱۹	توبہ فصوح	۷۷	اخلاص کی برکات
۱۱۹	گناہ کی تاثیر	۷۷	دین کے تین درجے
۱۲۰	توبہ فصوح کے کتے ہیں؟	۷۹	اعمال کی قبولیت میں نیت کا دخل
۱۲۱	گناہوں کو ہلکا اور مزین کر کے پیش کرنا	۸۳	ریاء سے بچنا اتم الوطائف ہے
۱۲۲	چھوٹے گناہ کو چھوڑنا نہ سمجھئے	۸۳	حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اخلاص
۱۲۳	مقام عبرت	۸۵	مولانا حسین احمد مدنی کا اخلاص
۱۲۳	خطرے کی بات	۸۷	حضرت عبدالملک مدنی کا اخلاص
۱۲۵	بے وفائی نہ کیا کرو	۸۸	مولانا خیر محمد جالندھری کا اخلاص
۱۲۶	عالم مثال میں انسانوں کی شکلیں		عقل بندے کے کام میں اللہ تعالیٰ کی
۱۲۸	جاہل اور اجہل میں فرق	۹۰	مد
	فرمان نبوی ﷺ کی فصاحت و	۹۹	اخلاص کی وجہ سے جوڑ پیدا ہوتا ہے
۱۲۸	بلاغت	۱۰۲	ریا کار کی تین علامتیں
۱۲۹	گناہوں سے بچنے کا مقام		عقل بندے کی تعریفیں زیادہ ہوتی
	علم اور ارادے سے گناہ چھوڑنے کا	۱۰۵	ہیں
۱۳۰	انعام	۱۰۵	بھٹنا اخلاص..... اتنا اجر
۱۳۰	گناہ سے نفرت ایمان کا اثر	۱۰۶	امام ابو داؤد کا اخلاص
۱۳۲	گناہ سے بھی بری چار باتیں	۱۰۷	رضائے الہی کے متلاشی
۱۳۲	گناہ و کبیرہ میں دس خرابیاں	۱۱۲	اخلاص کی چیلنگ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۶۰	مہر جیل اور ہجر جیل	۱۳۳	معرفت بھری بات
۱۶۰	حق و باطل کی جنگ	۱۳۳	گنہگار اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے
۱۶۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت پسندی	۱۳۵	ایمان سے محروم کر دینے والے گناہ
۱۶۳	فقراء کی امتیازی شان	۱۳۵	احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا
۱۶۵	حوصلہ افزائی ہو تو ایسی	۱۳۶	سویہ خاتمہ کا ڈرتے ہونا
۱۶۶	اہل دل کسے کہتے ہیں؟	۱۳۶	نصیب اسلام پر شکر ادا نہ کرنا
۱۶۶	ایک عبرت آموز واقعہ	۱۳۷	گناہ کی سزا کی تین صورتیں
۱۶۷	غریبوں کی آہ سے ڈرو	۱۴۰	چھ کام بے فائدہ ہوتے ہیں
۱۶۹	عزت کا پیمانہ	۱۴۰	توبہ نصوح کے لئے چار کام
۱۷۰	ایک اہم نکتہ	۱۴۳	توبہ نصوح کے چار انعامات
۱۷۰	ریا کاری کے باعث اجر سے محرومی	۱۴۳	ایک شرابی کی بخشش کا واقعہ
۱۷۱	دین اعمال اور سائنسی نقطہ نظر	۱۴۵	یاد شاہ کی پینکشن اور اس کا جواب
۱۷۳	ہدایات برائے سالکین	۱۴۶	ایک کفن چور کی سچی توبہ کا واقعہ
۱۷۴	چنے ہوئے لوگوں کا مجمع	۱۴۸	عزت دین میں سے
۱۷۵	آئیے عہد کریں	۱۵۳	ہر حال آزمائش کا حال ہے
۱۷۶	اسلام میں نیکان کا تصور	۱۵۳	حقیقی معنوں میں بے وقوف انسان
	اللہ تعالیٰ سے نفع حاصل کرنے کا	۱۵۴	جانی اور باہی گناہ
۱۷۹	طریقہ	۱۵۶	آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے کا حکم
۱۸۰	تقویٰ کی برکات	۱۵۸	دنیا کی حقیقت
۱۸۱	آج کا عنوان	۱۵۸	وہ مزہ شاعری میں نہیں
۱۸۱	ہر چیز جوڑا جوڑا	۱۵۸	اللہ والوں کے خادم
۱۸۱	اسلام دین فطرت ہے	۱۵۹	اللہ والوں کی حکومت

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۹۹	مسنون عمل کی برکت	۱۸۲	امھی بیوی کون ہے؟
۲۰۱	پیار محبت کی باتیں	۱۸۳	انبیائے کرام کی چار سنتیں
۲۰۱	بچیوں کو تین سورتوں کی تعلیم	۱۸۳	(۱)۔ شرم و حیا
۲۰۲	اعتدال کی زندگی بسر کریں	۱۸۴	(۲) خوشبو
۲۰۲	عورتوں میں حوروں والی صفات	۱۸۵	(۳) سواک
۲۰۳	حنفی سوچ سے بچیں	۱۸۶	(۴) نکاح
۲۰۳	بیار کا نام	۱۸۷	بزرگوں کی احتیاط
۲۰۳	فقط تہی دور کر لیا کریں	۱۸۷	نکاح ایسے بھی ہوتا تھا
۲۰۴	مجھوٹ سے بچیں	۱۸۸	جوان بیٹیوں کو گھر میں بٹھانے کا وبال
۲۰۵	بیوی کے ساتھ دوڑ لگانا	۱۸۹	زنا اور نکاح میں فرق
۲۰۹	☆ تباہ کن موسیقی	۱۹۱	نکاح کی تشہیر کا حکم
۲۰۹	جیسے جذبات ویسے خیالات	۱۹۱	مسجد میں نکاح کا فائدہ
۲۱۰	دل کی مرکزی حیثیت	۱۹۲	نکاح کی تقریب میں قبول اسلام
۲۱۱	عقل کی اہمیت	۱۹۳	افراط و تفریط سے بچیں
۲۱۱	عقل کیا چیز ہے؟	۱۹۳	قابل افسوس واقعہ
۲۱۲	خیالات کا خود کار نظام	۱۹۴	دنیا میں جنت کے مزے
۲۱۳	عقل کی جولانیاں	۱۹۶	نیک بیوی کی چار نشانیاں
۲۱۵	انسانی دماغ اور جدید سائنسی تحقیق	۱۹۷	میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ
۲۱۸	دماغ میں انفارمیشن کیسے کی جاتی ہیں؟	۱۹۷	ایک علمی نکتہ
۲۲۱	سوزک..... کفار کا ایک مہلک ترین ہتھیار	۱۹۸	گمراہ جھگڑوں کا آسان حل
۲۲۷	وڈیو گیمز کے ذریعے کفار کی کوششیں	۱۹۹	عقل مزاجی کی ضرورت

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۵۳	۸) ہدایت اور گمراہی والی تجلیات	۲۲۸	سوچنے کا مقام
۲۵۳	دنیا کے مہمان خصوصی	۲۲۹	۹) قوت ارادی
۲۵۴	تجلیات ہدایت کا عروج	۲۳۰	قوت ارادی ایک نعمت ہے
۲۵۷	مکوئی انداز کی بازگشت		دنیا کا سب سے بڑا ترجمان اور اس
۲۵۸	پرہے کی اتنی پابندی	۲۳۳	کی قوت ارادی
۲۵۸	ایک بھولا بھالا نوجوان	۲۳۵	ایک نوبل پرائز و نری قوت ارادی
۲۵۸	قابل لا حول یورپی ماحول	۲۳۶	تیزشن کی قوت ارادی
۲۵۹	منکالت والی تجلیات کا عروج	۲۳۶	آئن سٹائن کی قوت ارادی
۲۶۱	طلاق دینے والے زنا کار	۲۳۷	سچ سے قوت ارادی بڑھ جاتی ہے
۲۶۳	پاکستان کی قدر و قیمت	۲۳۹	مضبوط قوت ارادی کی ضرورت
۲۶۳	اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا	۲۴۰	لکڑی آگ کی غذا کیسے بنتی ہے؟
۲۶۴	۱۰۱	۲۴۲	قوت ارادی بڑھانے کا راز
۲۶۵	دینی کاموں میں رکاوٹیں	۲۴۱	دو بچوں کی قوت ارادی
۲۶۷	کم یابی کے دور میں چیز کی قدر و قیمت	۲۴۳	ایک معذور صحابی <small>رضی اللہ عنہ</small> کی قوت ارادی
۲۶۸	بدگمانی سے بچیں	۲۴۴	اسماء بنت ابی بکر کی قوت ارادی
۲۶۹	اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمانی !!!	۲۴۵	فاطمہ بنت خطاب کی قوت ارادی
۲۶۹	بدظن کرنے کی ناکام کوشش	۲۴۵	ایک فرنگی کا اعتراف
۲۷۰	نویں مرتبہ		سیدنا صدیق اکبر <small>رضی اللہ عنہ</small> کی قوت
		۲۳۶	ارادی
	❀❀❀❀	۲۳۸	محبوب خدا <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی قوت ارادی
		۲۳۹	استقامت کی تلقین

عرض ناشر

محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کے علوم و معارف پر مبنی بیانات کو شائع کرنے کا یہ سلسلہ خطبات فقیر کے عنوان سے 1996ء بمطابق 1417ھ میں شروع کیا تھا اور اب یہ بارہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہر آن بلند سے بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ یہی حال حضرت دامت برکاتہم کے بیانات حکمت و معرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ ورا نہ خطابت یا یاد کی ہوئی تقریریں نہیں ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جو الفاظ کے سانچے میں ڈھل کر آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ دوران بیان رخ انور پر فکر کے گہرے سائے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں

میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ

کہ میں ہوں محرم راز درون خانہ

”خطبات فقیر“ کی اشاعت کا یہ کام ہم نے بھی اسی نیت سے شروع کر رکھا

ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کی اس فکر سے سب کو فکر مند کیا جائے۔ الحمد للہ کہ

ادارہ مکتبۃ الفقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کے ان بیانات کو کتابی صورت میں استفادہ عام کے لئے شائع کرتا ہے۔ بیانات کو احاطہ تحریر میں لانے کے بعد حضرت دامت برکاتہم سے اصلاح کروائی جاتی ہے، پھر کمپیوٹرنگ اور پروف ریڈنگ کا کام بڑی عرق ریزی سے کیا جاتا ہے اور آخر پر پرنٹنگ اور بائینڈنگ کا پیچیدہ اور تکنیکی مرحلہ آتا ہے۔ یہ تمام مراحل بڑی توجہ اور محنت طلب ہیں جو کہ مکتبۃ الفقیر کے زیر اہتمام سرانجام دیئے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کمی یا کوتاہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

بارگاہ ایزدی میں یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت دامت برکاتہم کے بیانات کی بازگشت پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہء جاریہ بنائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین ﷺ

ڈاکٹر شاہ مسعود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ
خادم مکتبۃ الفقیر فیصل آباد

ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہو جاتے ہیں۔ عاجز کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کو تحریری شکل میں یکجا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے فائدہ کا باعث ہوں گے۔ چنانچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ قرطاس پر رقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں تصحیح کے لئے پیش کئے۔ الحمد للہ کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے اپنی کونا کون مصروفیات کے باوجود ذرا نوازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تصحیح فرمائی بلکہ ان کی ترتیب و ترتین کو پسند بھی فرمایا۔ یہ انہی کی دعائیں اور توجہات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں یہ کتاب مرتب ہو سکی۔

ممنون ہوں میں آپ کی نظر انتخاب کا

حضرت دامت برکاتہم کا ہر بیان بے شمار فوائد و ثمرات کا حامل ہے۔ ان کو صفحات پر منتقل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہو جاتی اور بین السطور دل میں یہ شدید خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کردہ احوال کے ساتھ متصف ہو جاؤں۔ یہ خطبات یقیناً قارئین کے لئے بھی نافع ہوں گے۔ خلوص نیت اور حضور قلب سے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات یا برکات سے فیض یاب ہونے کا باعث ہوگا۔

اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ اس ادنیٰ سے کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما کر بندہ کو بھی اپنے چاہنے والوں میں شمار فرمائیں۔ آمین ثم آمین

فقیر محمد حنیف عنفی عنہ

ایم اے۔ بی ایڈ

موضع باغ، جھنگ



يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ مَا نَعُرِكُمْ بِهِيَ الْكُرِيمِ
(الأنفال: ٦٤)

اللہ تعالیٰ کی قدر دانی

یہ بیان 15 مئی 2002ء کو دارالعلوم جھنگ میں سہ ماہی امتحان کے
نتائج کا اعلان کرنے سے قبل ہوا، جس میں دارالعلوم کے اساتذہ
اور طلباء کے علاوہ کثیر تعداد میں سائلین طریقت نے شرکت کی۔

اقتباس

اللہ تعالیٰ محنت کش کی محنت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے بدلہ دلوانا چاہتے ہیں تو جو بندہ اللہ کے لئے محنت کرے، اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرے، اس کے دین کا کام کرے اور دینے والا بھی خود پروردگار ہو تو پھر پروردگار کتنا جلدی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بعض اوقات دنیا داروں کے پاس دیتے کو کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ **وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** اور آسمان اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ اے اللہ! میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لئے کیا تھا اور مجھے اس کا بدلہ نہیں ملا۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

اللہ تعالیٰ کی قدر دانی

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَا بَعْدًا
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. (الانقطار: ۶)

..... وقال الله تعالى في مقام اخر

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَءَزِيزٌ ۝ وَكَرِيمٌ (البقرة: ۱۴۳)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
اللہ رب العزت کی بہت سی صفات ہیں۔ اگر ساری دنیا کے درخت قلمیں بن
جائیں اور ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان قلموں اور سیاہی سے اللہ
تعالیٰ کی تعریفیں لکھنی شروع کی جائیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ قلمیں ٹوٹ جائیں گی
اور یہ سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ رب العزت کی تعریفیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔

قدر دانی کسے کہتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ قدر دان ہے..... قدر دانی
کسے کہتے ہیں؟..... دوسرے کے اوپر محبت کی وجہ سے اتنا مہربان ہونا کہ اس کے عمل

کو رو نہ کرنا اور اس کی توقع سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا قدر والی کہلاتا ہے۔

ایک تنگی کے بدلے دو آسانیاں

اگر اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے کسی کے اوپر مشکل حالات بھیج دیتے ہیں تو ان حالات کے بعد اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالات عطا فرمادیتے ہیں۔ اسی لئے ارشاد فرمایا:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . (الم نشرح: ۶،۵)
[بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے]

چونکہ ایک ہی بات کو دو دفعہ دہرایا گیا ہے اس لئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تنگی آتی ہے اگر بندہ اسے صبر کے ساتھ برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے دو گنی آسانیاں پیدا فرمادیتے ہیں۔

اسی مضمون کو کسی شاعر نے ایک شعر میں یوں بیان کیا:

إِذَا اهْتَدَتْ بِكَ الْبُلُوٰى فَفَكِّرْ فِيَّ أَلَمْ نَشْرَحْ

فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ

[جب تیرے اوپر سخت مصیبت آجائے تو الم نشرح میں غور کر کہ ایک تنگی دو آسانوں کے درمیان ہے۔ جب تو غور کرے گا تو تیری مصیبت ختم ہو جائے گی اور تو خوش ہو جائے گا]

اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قدر

اللہ رب العزت اتنے قدر دان ہیں کہ بندہ اگر چھوٹا سا بھی عمل کرے تو پر

وردگار اس کے عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حالانکہ بادشاہوں کا دستور ہے کہ لے جانے والا اگر کوئی چھوٹا سا تحفہ لے کر جائے تو وہ اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تحفے بھی بڑے آنے چاہئیں۔ مگر اللہ رب العزت ایسا کریم آقا ہے کہ ارشاد فرمایا:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۷)

[جس بندے نے ذرہ کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا]

قرآن مجید میں ایک دستور بتا دیا گیا ہے:

أَيُّ لَا أَضْيَعُ عَمَلٍ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ (آل عمران: ۱۹۵)

[بے شک تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو میں اس کے کئے ہوئے عملوں کو ضائع نہیں کروں گا]

اب ذرا اس مثال کو سمجھ لیجئے۔ جب دفتر میں کسی کلرک نے اپنے انسر کے سامنے کوئی لیٹر پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو کئی دفعہ ٹائپ کرتا ہے۔ کبھی سپیلنگ کی غلطی ہو جاتی ہے اور کبھی پیرا گراف خوبصورت نہیں لگتا۔ اس طرح کئی کئی کاغذ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر ایک فائل کاغذ تیار ہو جاتا ہے۔ اس پر حکام بالا سائن (دستخط) کرتے ہیں۔ اگر وہ کلرک غلطیوں والا کاغذ ہی دستخط کرنے کے لئے پیش کر دے اور کہہ دے کہ جی میں نے ٹائپ کر دیا ہے اب آپ غلطیاں بھی ٹھیک کر دیں اور سائن بھی کر دیں تو کوئی کام بھی ایسا نہیں کرے گا۔

اللہ تعالیٰ کی شان بھی ایسی ہی تھی کہ بندہ عمل کرتا اور اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی رو فرما دیتے اور کہہ دیتے، میرے بندے! جاؤ، مجھے! غلطی کے عمل چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارا کیا بنتا؟ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے اس میں

رکعتیں ہی بھول جائیں، دنیا کے خیالات میں اتنا مگھو ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں کس رکعت میں تھا تو اب آدابِ شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے کہہ دیا جاتا کہ میرے بندے! تم میرے سامنے کھڑے ہو کر بھی اتنے غافل ہوتے ہو، اب نئے سرے سے نماز پڑھو، تمہاری یہ نماز قابلِ قبول نہیں۔ مگر پروردگارِ عالم نے یہ حکم نہیں دیا۔ اگر ایسا حکم کر دیتے تو ہم سارا دن نماز ہی پڑھتے رہ جاتے۔ پتہ نہیں کہ کوئی ایک نماز بھی ایسی پڑھ سکتے یا نہ پڑھ سکتے۔

جب بندہ بھول جاتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ذہ اپنے دل میں سوچے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تین پڑھیں یا چار۔ ایک طرف غالب گمان کر لے اور پھر باقی رکعتوں کو پورا کرے۔ اگر آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس غفلت والی نماز کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اب حالانکہ اس کو نماز میں رکعتیں یاد نہیں رہیں۔ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو رکعتیں بھی یاد نہیں تو اس کے لئے آسان سا حکم یہ تھا کہ نئے سرے سے نماز پڑھو مگر اس صورت میں بندے کی محنت ضائع جاتی۔ اللہ تعالیٰ قدر دان ہیں وہ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ لہذا ایک اصول بتا دیا کہ اگر واجب تک کے درجے کی کوئی غلطی ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینا۔ ہم اسی نماز کو قبول کر لیں گے۔

اگر کوئی نماز میں رکعتیں بھول جائے۔ اب وہ سوچے کہ میں نماز توڑ کر نئے سرے سے پڑھتا ہوں تو یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے کیونکہ نماز توڑنا گناہ ہے۔ اسی نماز کو جتنا ممکن، سجدہ سہو کے ذریعے مکمل کیا جائے تا کہ بندے کی عبادت ضائع نہ ہونے پائے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قدر دان ہیں۔

ایک آدمی کو دشمنوں نے کسی ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ جہاں رات کے وقت سمجھ ہی نہیں لگتی تھی کہ قبلہ کس طرف ہے۔ نماز تو وہاں بھی پڑھنی ہے۔ آسمان پر بادل ہیں،

ازدگرد درخت ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ قبلہ کدھر ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم تحری کر کے ایک طرف غالب گمان کر لو، قیافہ لگاؤ کہ قبلہ کدھر ہے، جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ قبلہ ادھر ہے تو اب تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کرو۔ اب اس نے دو رکعتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد بادل بٹے تو چاند نکل آیا۔ چاند کے نکلنے سے اسے احساس ہو گیا کہ قبلہ تو پیری پیٹھ کے پیچھے ہے اور میں بالکل مخالف سمت میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب نئے سرے سے نماز پڑھو بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اب تم نماز میں ہی اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کے بقیہ دو رکعتیں اس سمت میں پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چاروں رکعتوں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ قدر دانی نہیں تو اور کیا ہے۔

سچے رب کا سچا وعدہ

اللہ رب العزت کے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے کہ بندے کو اس کی محنت کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ دنیا کے امیر اور وڈیرے لوگوں کے پاس ان کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں۔ وہ ان سے کام تو پورا لیتے ہیں لیکن ان کو ان کا حق پورا نہیں دیتے۔ جب کہ اللہ رب العزت بندے کی محنت کا بدلہ فوراً چاہتے ہیں۔ چنانچہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مزدور مزدوری کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ اب یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ محنت کش کی محنت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے بدلہ دلوانا چاہتے ہیں تو جو بندہ اللہ کے لئے محنت کرے، اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرے، اس کے دین کا کام کرے اور دینے والا بھی خود پروردگار ہو تو پھر پروردگار کتنا جلدی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بعض اوقات دنیا داروں کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ رب العزت تو وہ اوقات ہے کہ

وَلِلّٰهِ عِزَّاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (المنافقون: ۷)

[اور آسمان اور زمین کے خزا نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں]

قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ اے اللہ! میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لئے کیا تھا اور مجھے اس کا بدلہ نہیں ملا۔ جو معزز مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں اگر کوئی کام کرتا ہو تو وہ سو روپے کی بجائے ایک سو دس روپے دے دیتے ہیں تاکہ کل کوئی بات نہ کر سکے۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر دنیا کے مالدار لوگ جتنی اجرت ہمتی ہو اس سے زیادہ دے دیتے ہیں صرف احسان جتانے کے لئے کہ وہ میرے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی یہ موقع نہیں دیں گے کہ قیامت کے دن کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ اے اللہ! میں نے تیرے لئے مزدوری کی مگر مجھے اس کا بدلہ نہیں ملا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو ان کی اسیدوں سے بڑھ کر بدلہ دیتے ہیں۔ یہ سچے رب کا سچا وعدہ ہے کہ تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، میں عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے لئے حوصلہ افزاء بات ہے کہ پروردگار عالم اتنی قدر دانی فرماتے ہیں۔

اگر ایک بچہ املا لکھے اور اس نے کوئی لفظ غلط لکھا ہو تو استاد کہتا:۔ کہ پھر لکھ کر لاؤ۔ اگر استاد کہے کہ اچھا اس کو کاٹ کر یہیں پر لکھ دو تو اس کا مطلب ہے کہ استاد نے بڑی نرمی برتی ہے۔ اور اگر کسی کی ایک کی بجائے دو تین غلطیاں ہوں اور استاد بھی خوش خطی والا ہو تو وہ کہے گا: بھئی! جا کر پھر لکھ کر لاؤ۔ لیکن اگر وہی استاد ایک جگہ بھی ٹھیک کرواے دوسری جگہ بھی ٹھیک کروا لے اور تیسری جگہ بھی ٹھیک کروا لے اور کہے کہ ہاں بس تو نے جو کچھ لکھا ہے مجھے قبول ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ استاد اس شاگرد پر بہت ہی مہربان ہے کیونکہ وہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔

یہ رب کریم کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بھی قبول فرمالیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی مثالیں

اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ اس کی قدردانی کی چند مثالیں سن لیجئے۔

☆... سیدنا ایوب علیہ السلام پر لطف و کرم

سیدنا ایوب علیہ السلام اکثر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے پروردگار عالم! آپ کے یہ بندے اس لئے عبادت میں مشغول ہیں کہ ان کو آپ نے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ان کے پاس گھر بھی ہے، گھر والی بھی ہے۔ اولاد بھی ہے اور باغات بھی ہیں۔ جب اتنی نعمتیں ان کے پاس ہیں تو یہ عبادت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اچھا، میں اپنے اس بندے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ آگ لگی اور گھر جل گیا، بیوی بچے سب چھت کے نیچے آ کر مر گئے۔ اور جدھر باغات تھے ادھر سے زمین کے نیچے پانی کی نہر ختم ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب باغات بھی ختم ہو گئے۔ خود سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری نے آلیا۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ وہ بہت عرصہ بیمار رہے مگر ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی جاری رہا۔

ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ ان کی زبان ہل رہی ہے۔ اس نے کان قریب لگا کر سنا تو وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ”اے اللہ! آپ نے مجھے جس حال میں رکھا میں آپ سے راضی ہوں، البتہ اتنی تمنا ضرور ہے کہ میری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ آخری لمحات تک میں تیرا نام تو لیتا رہوں۔“

جب رب کریم نے آزمائش کو ختم فرما دیا تو وہ کام کئے۔ ایک تو یہ کہ ان کی

تعریف فرمائی اور تعریف کرنے کا حق ادا کروایا۔ فرمایا،

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ (ص: ۳۳)

[ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، میرا کتنا اچھا بندہ تھا، وہ میری طرف

رجوع کرنے والا تھا]

اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ جب جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو سیدنا ایوب رضی اللہ عنہ کی تعریفیں وہاں بھی کی جائیں گی۔ گویا ایک قافی آزمائش پر ہمیشہ باقی رہنے والا انعام عطا فرمادیا۔

اور دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو صحت بھی عطا کر دی، گھر بھی دے دیا، باغات بھی دے دیئے، پھولی بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا اور جتنا کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت اور مہربانی سے اتنا اپنی طرف سے اور بھی عطا کر دیا۔

چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ وَحَمَةً مِّنَّا وَإِذْ تَخْوَىٰ لِلْأُولَىٰ الْأُلْبَابِ

(ص: ۳۳)

[اور بخشے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی

مہربانی سے اور یاد رکھنے کو عقل والوں کیلئے]

یہ ہماری طرف سے رحمت اور نعمت تھی اور اس میں سوجھ بوجھ والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں کہ اگر ہم کسی کو آزماتے ہیں اور وہ آزمائش میں صبر کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو پھر ہم اس کے اندازے سے بڑھ کر اس کے ساتھ رحمت اور کرم کا معاملہ فرمادیتے ہیں۔ جیسے باپ سمجھانے کے لئے بچے کو ڈانٹ پلا دیتا ہے۔ ڈانٹ اس لئے پلاتا ہے کہ تربیت مقصود ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ باپ کو بیٹے سے محبت بھی ہوتی ہے اس لئے اس محبت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد بہانے سے آئس کریم بھی

کھلا دیتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔

ہم چھوٹے تھے تو کبھی کبھار گھر والے مجھے محلے کے بوڑھے وکاندار کے پاس کوئی سودا لینے بھیجتے، جب ہم اس سے سودا لے لیتے تو وہ سودے کے ساتھ بسکٹ یا کھانے کی کوئی چیز دیتا کہ بیٹا یہ کھا لو۔ ایک دفعہ میں نے آکر اپنی والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ یہ بڑے میاں سودا تو دیتے ہیں لیکن یہ کھانے کے لئے چیزیں کیوں دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگیں کہ بیٹا! یہ تیرے والد کے بچپن کے دوست ہیں، ان کا ان سے اتنا گہرا تعلق ہے جب تم اس کے سامنے جاتے ہو تو اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا اپنا بیٹا میرے پاس آیا ہے، وہ سودا تو گھر کے لئے دیتا ہے لیکن اس محبت کی وجہ سے کچھ چیز بھی تمہیں کھانے کے لئے دے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی مثال سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں یا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے قربانی کرتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے کی توقعات سے بڑھ کر اس کے ساتھ رحمت اور کرم کا معاملہ فرمادیتے ہیں۔

☆... مشاطہ اور بی بی آسیہ پر نظر عنایت

فرعون کے محل میں ایک عورت مشاطہ تھی جو اس کی بیوی اور بیٹیوں کے بال سنوارتی تھی۔ گویا وہ ہینر ڈریسرتھی۔ وہ ایک دن اس کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اس کی کنگھی نیچے جا گری۔ اس نے اٹھاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام لیا۔ جب اس نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی حیران ہو کر کہنے لگی، تو موسیٰ کو مانتی ہے؟ جب بات کھل گئی تو وہ جھوٹ کیسے بول سکتی تھی۔ لہذا اس نے کہہ دیا کہ ہاں مانتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں ابھی تیرا بندو بست کرواتی ہوں۔ چنانچہ وہ بھاگ کر گئی اور اپنے باپ فرعون سے کہا کہ تیرے محل میں کام کرنے والی عورت جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان چکی ہے، اب آپ کی خدائی

کا دعویٰ کیسا ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، میں ابھی اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے بار لگایا اور اس عورت کو بلوا کر کہا کہ تم اپنی بات سے رجوع کر لو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی،

فَالْفُضِّ مَا أَنْتَ فَاضٍ

[اب تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے]

فرعون کو پتہ تھا کہ اس کی ایک دودھ پتی بیٹی بھی ہے۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو چومنا کروایا۔ یعنی اسے زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ زمین پر رکھ دیئے گئے اور ہاتھ کے اندر سے ایک کیل زمین میں گاڑ دی گئی۔ اس طرح دونوں ہاتھوں میں بھی کیل گاڑ دیئے گئے اور دونوں پاؤں میں بھی۔ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ فرعون نے کہا، اب بتا۔ وہ کہنے لگی، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔

فرعون کہنے لگا، اچھا، اس کی بیٹی کو بلواؤ۔ چنانچہ وہ چھوٹی سی معصوم بچی لائی گئی اور اسے اس عورت کے سینے پر لٹا دیا گیا۔ جب بچی ماں کے سینے پر لیٹی تو اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس حالت میں اس کو کہا گیا کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانو گی تو ہم اس بچی کو اسی حالت میں ذبح کر دیں گے..... اب بتائیے کہ ماں کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے اور جس ماں کے سینے پر اس کی چھوٹی سی معصوم بچی دودھ پنی رہی ہو اور اسے ایسی دھمکی ملے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی..... مگر وہ کہنے لگی کہ میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ اس کی بیٹی کو اسی حالت میں گردن کاٹ کر شہید کر دیا گیا اور اس کا خون ماں کے سینے پر گرا..... اللہ اکبر!..... اس ماں کے دل پر کیا ہتی ہوگی۔ مگر اس نے اللہ کے لئے یہ قربانی دے دی۔

جب انہوں نے دیکھا کہ اب بھی نہیں مانی تو اس نے بچھو منگوائے..... اس زمانے میں دشمن کو مزادینے کے لئے شیروں، بچھوؤں اور سانپوں کو پالا جاتا تھا.....

جب پھولائے گئے تو اس کے جسم سے کپڑے ہٹا کر بچھو چھوڑ دیئے گئے۔ اب زہریلے پھوؤں نے اسے کاٹنا شروع کر دیا..... ذرا سوچیں کہ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا سا بچھو بھی کانٹے تو کتنا درد ہوتا ہے اور اگر بڑے بڑے پلے ہوئے زہریلے پھوکاٹیں تو پھر کیا بنے گا..... وہ بے چاری تڑپتی رہی۔ پھوؤں نے اسے اس قدر کاٹا کہ اسے اسی جگہ پر بالآخر موت آگئی۔

فرعون جب یہ کام کر چکا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے آکر اپنی بیوی سے کہا، دیکھا! یہ عورت مجھے نہیں مانتی تھی میں نے اسے کتنی عبرتناک سزا دی..... اللہ کی شان، کہ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھیں چنانچہ اس نے کہا کہ تو بڑا بد بخت اور ظالم ہے کہ تو نے معصوم بچی کو بھی مروا دیا اور اس کی ماں کو بھی قتل کر دیا، تجھے ذرا بھی دکھ اور احساس نہیں ہوا۔ جب اس نے لعنت ملامت کی تو وہ کہنے لگا، کیوں، کیا تو بھی موسیٰ کو مانتی ہے؟..... ایمان بڑی عجیب نعمت ہوتی ہے۔ یہ پھر چھپایا نہیں جاسکتا، وہ کہنے لگی کہ ہاں، میں بھی اس پر ایمان لا چکی ہوں۔ اس نے متعجب ہو کر پھر پوچھا، تو میری بیوی ہو کر موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ انہوں نے کہا، ہاں میں ایمان لے آئی ہوں۔ اس نے کہا، میں تجھے بھی سخت سزا دلاؤں گا۔ وہ کہنے لگیں، جو مرضی کر میں نہیں گھبراؤں گی۔

اب فرعون دوبارہ غصے میں بھرا ہوا واپس آیا اور دوبارہ دربار لگایا۔ وہ غصے میں آکر کہنے لگا کہ دیکھو ایک عورت کا ہم نے یہ حشر کیا، اب ایک اور ہے جسے میں نے لاکھوں عورتوں میں سے چنا کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور میں نے اس سے اتنی محبت کی کہ اسے اپنی بیوی اور ملکہ بنایا، اس کی خدمت کے لئے ہر وقت سینکڑوں لڑکیاں تیار رہتی ہیں، اس کے کام آنکھ کے اشارے پر ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں موسیٰ پر ایمان لے آئی ہوں، اسے بلواؤ۔ اب پولیس والے بھی

حیران ہوئے کہ اب تک تو ملکہ کا اتنا ادب و احترام تھا اور اب فرعون حکم دے رہا ہے کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ بہر حال اسے پکڑ کر لایا گیا۔

فرعون نے اسے کہا، آئیے! اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے سب کے سامنے رسوا کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں نے جو بات کر دی ہے میں اس پر پکی ہوں۔ اس نے کہا، دیکھو میں آپ کو آخری چانس دیتا ہوں، اس وقت تک تو ملکہ ہے اور تیری عزت ہے، میں تجھے اتنا ذلیل کروں گا کہ کسی نے کسی کو اتنا ذلیل نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کہا، اب نہیں ہو سکتا، میں اپنی بات پر پکی ہوں۔ چنانچہ اس نے غصے میں آکر اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم سے لباس اتار دیا جائے... اب بٹائیں کہ اگر مرد کو مرد کے مجمع میں کہیں کہ تیرا لباس اتار دیں گے تو مرد کو اتنی شرم آتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ زمین پھٹتی اور میں اس سے پہلے اندر اتر جاتا۔ جب مرد کو مجمع میں بے ستر ہونا اتنا برا لگتا ہے تو عورت تو پھر اور بھی حیا والی ہوتی ہے..... لیکن حضرت آئیے نے کہا کہ تو جو کچھ بھی کر لے میں حق بات پر سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ ان کے جسم سے لباس اتار دیا گیا۔

اس حالت میں ان سے پھر پوچھا گیا کہ اب مانتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتی۔ فرعون نے یہ سن کر حکم دے دیا کہ اس کو بھی چومیخا لٹا دو۔ چنانچہ جب اس کو زمین پر لٹانے لگے تو فرعون کہنے لگا کہ اسے ایسے لٹاؤ کہ اس کا چہرہ محل کی طرف رہے تاکہ اس کو احساس رہے کہ اب میں کبھی اس محل میں داخل نہیں ہو سکوں گی۔ بالآخر فرعون کے حکم کے مطابق اس کا چہرہ محل کی طرف کر کے لٹا دیا گیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، اب مانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، نہیں مانتی۔ اس نے آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ زندہ حالت میں اس کے جسم کے اوپر سے کھال اتار دی جائے..... اس زمانے میں بلیڈ کے ساتھ بہت باریکی سے اوپر کی کھال اتار دی جاتی تھی..... چنانچہ اس کی کھال

اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ پورے بدن کی کھال اتارنے تک وہ زندہ رہی۔ لیکن جب کھال اتر جائے تو اس جگہ پر ہوا بھی لگے تو درد ہوتا ہے۔ لہذا ذرا سوچیں کہ اس کے جسم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔

فرعون نے کہا، اب بتاؤ، اب نہ تو تجھے محل مل سکتا ہے اور نہ میں مل سکتا ہوں یہ نعمتیں تم سے چھین لی گئی ہیں، کیا اب مانتی ہو؟ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں مانتی۔

فرعون کو غصہ تھا۔ لہذا اس نے مرچیں لانے کا حکم دے دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پسپ ہوئی مرچیں منگوا کر اس کے جسم پر ڈالی گئیں۔ جب مرچیں ڈالی گئیں تو اس نے اور بھی زیادہ تڑپنا شروع کر دیا۔ بالآخر اس تڑپنے کی حالت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (التحریم: ۱۱)

[اے رب! بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں]

بی بی آسیہ نے دعا میں کہا کہ اے اللہ! اس فرعون نے مجھے اپنے گھر سے دھکا دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اب تو اس محل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ! مجھے یہ محل نہیں چاہیے، اے پروردگار! مجھے جنت میں اپنے قرب میں ایک مکان عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد بی بی آسیہ شہید ہو گئیں۔

اب اللہ تعالیٰ کی قدر دانی دیکھئے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ معراج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے، ایک واوی میں سے گزرے تو بڑی خوشبو آئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل! یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی! اس جگہ پر ایک عورت کی قبر ہے جو فرعون کی بیوی اور بیٹیوں کے بالوں کو ٹھیک کیا کرتی تھی، اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا اور اب اس کی خوشبو سے پوری، ادی کو مہکایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر..... اس کی قبر کی خوشبو نبی

علیہ السلام نے سوکھی۔

بی بی آسیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدر دانی کا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْبَيْتِ (الصحریم: ۱۱) اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی قدر دانی فرمائی کہ جب نبی اکرم ﷺ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فوت ہو۔ نے لگیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدیجہ! اگر تم فوت ہوگئی تو پھر جنت میں جاؤ گی، تم وہاں میری بیویوں کو سلام دے دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر بڑی حیران ہوئیں اور پوچھنے لگیں، اے اللہ کے نبی ﷺ! میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، وہ بیویاں کون ہیں جن کو سلام دینے کے لئے آپ نے یوں فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم جنت میں پہنچ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں میری بیویاں بنا دیا ہے۔ اللہ کی قدر دانی دیکھئے کہ بی بی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے مکان مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر تو دے ہی دیا ساتھ گھر والا بھی عطا فرما دیا اور گھر والا بھی ایسا دیا جو اس کا اپنا محبوب ﷺ تھا..... سبحان اللہ..... فرعون نے اپنے گھر سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف اپنے قرب میں جگہ دی بلکہ فرعون بے ایمان کی بجائے اللہ نے ان کو اپنے محبوب سید الاولیٰین والآخرین کی بیوی بنا دیا..... تو معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لئے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدر دان ہیں اور وہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کی قدر دانی فرماتے ہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر انعاماتِ خداوندی

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيْلُ رَبَّنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا ط

[اور یاد کرو جب اٹھاتے تے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل اور

دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے [البقرہ: ۱۲۷]

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا گھر بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ ان کو ابوالانبیاء (انبیاء کا باپ) بنا دیا۔ چنانچہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے دس ہزار سے زیادہ انبیائے کرام تشریف لائے۔ جو عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی وہ بہت ہی انوکھی تھی۔ ان کی شخصیت سمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں یعنی دنیا کے تینوں مذاہب کے نزدیک قابل احترام ہے۔ گویا انہوں نے اللہ کے لئے کام کیا اور رب کریم نے ان کو اس کام پر اجرت بھی دی۔ کیونکہ جو کریم ہوتا ہے وہ بندے کی مزدوری کی اجرت دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مزدوری کی اجرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (البقرہ: ۱۲۸)

[میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں]

یہ اجرت تو گھر بنانے کا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی امید سے بڑھ کر ایک اور اجرت بھی دیا۔ وہ یہ کہ جس جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نشانات کی اس جگہ کو بعد میں آنے والوں کے لئے مصلیٰ بنا دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (البقرہ: ۱۲۵)

[اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ]

گویا فرمایا، اے ابراہیم! تو نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر میرا گھر بنایا، میں وہ پروردگار ہوں کہ تیرے قدموں کے نشانات کے قریب کی زمین کو بعد میں آنے والوں کے لئے سجدہ گاہ بنا دیتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے قدر دانی۔

بی بی ہاجرہ کا توکل اور اس کی قدر دانی

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم پر بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہم السلام کو ملک شام سے لا کر بیت اللہ شریف کے قریب ایسی جگہ پر آباد کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (ابراہیم: ۳۷)

جب وہاں سے چلنے لگے تو اہلیہ صحابہ پوچھنے لگیں، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، کیا آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اب انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو بی بی ہاجرہ فرمانے لگیں کہ اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اب دیکھئے اللہ کی ایک بندی اللہ پر توکل کرتی ہے اور ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ملتا اور کوئی سبزہ دکھائی نہیں دیتا، وہ اللہ کے نام پر وہاں رہنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ رب کریم کی قدر دانی دیکھئے کہ یہی نہیں کہ صرف ان کو پینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پانی عطا کیا بلکہ زم زم کا ایک ایسا چشمہ جاری فرما دیا کہ جس سے آج پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر زم زم پیا کرتے ہیں۔ کہاں ملا تے کے لئے پانی نہیں تھا اور کہا ایسا چشمہ کہ کم و بیش بیس لاکھ آدمی حج پر جاتے ہیں اور کم و بیش ہر بندہ اپنے ساتھ زم زم کا پانی بھر کر لاتا ہے۔ اے مالک! وہ کیسا چشمہ ہے جو اتنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔

ایک دفعہ ہمیں زم زم کے کنویں میں دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ہمارے ایک قریبی دوست کی وہاں ڈیوٹی تھی۔ وہ ہمیں لے کر گئے جب وہ ہمیں اندر لے گئے تو انہوں

نے کہا کہ اندر جھانک کر دیکھیں۔ انہوں نے وہاں خاص لائٹوں کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے تیز لائٹیں اندر ڈالیں اور ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی گہرائی تو اتنی نہیں ہے مگر نیچے سے جیسے پائپ میں سے پانی آرہا ہوتا ہے تو اس طرح ہمیں دھاریں نظر آئیں۔ ہم نے اس سے پوچھا، جی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم عام لوگوں میں یہ بات نہیں کرتے، مجھے کئی مرتبہ زم زم میں نیچے جانے کا موقع ملا، نیچے سات جگہیں ایسی ہیں جہاں سے پانی ابل رہا ہے۔ واہ میرے مولا! آپ کتنے قدر دان ہیں کہ بی بی ہاجرہ کی توکل کے صدقے پوری مخلوق کو زم زم پہنچا رہے ہیں۔

حضرت عمرؓ کی دعا کی قدر دانی

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ مکہ مکرمہ سے لوٹ کر مدینہ منورہ کی طرف آرہے تھے۔ راستے میں رات آگئی۔ پڑاؤ ڈالا۔ آپ کھلے میدان میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پر چودھویں کا چاند نور برسا رہا تھا۔ جب سیدنا عمرؓ نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو انہیں بے اختیار مدینہ کا چاند یاد آ گیا۔ نبی ﷺ کا خیال آتے ہی اٹھ بیٹھے، اس وقت تنہائی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان سے نور برس رہا تھا، قبولیت دعا کا موقع محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت سیدنا عمرؓ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کا راز کھولا اور اپنے دل کی تمنا یوں بیان کی۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ قَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيْبِكَ

اے اللہ! مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے اور میری قبر محبوب

ﷺ کے شہر میں بنا دیجئے [

اب حضرت عمرؓ نے تو اتنا ہی مانگا تھا، ان کو شہادت تو کسی جگہ بھی مل سکتی تھی، چاہے پہاڑی کی چوٹی پر ملتی چاہے کسی میدان میں ملتی، مگر اللہ تعالیٰ قدر دان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو پورا کیا، مگر پورا بھی کس انداز میں کیا کہ

..... سیدنا عمرؓ، با وضو ہیں

..... مصلیٰ نبوی پر کھڑے ہیں

..... قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔

اس قرب اور احسان کی کیفیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عمرؓ کو شہادت عطا فرمادی۔ وہ زخم اسی دنت لگا تھا بوشہادت کا سبب بنا تھا۔ مصلیٰ نبوی پر شہادت کا رتبہ عطا فرمادینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر دانی نہیں تو اور کیا ہے۔ انہوں نے تو فقط شہادت مانگی تھی مگر ان کی امید سے بڑھ کر ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا گیا۔

انہوں نے دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ! میری قبر اپنے محبوب ﷺ کے شہر میں بنا دینا۔ اگر قبر جنت البقیع میں بن جاتی تو تب بھی دعا پوری ہو جاتی مگر اللہ تعالیٰ قدر دان ہیں..... اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر کے لئے کہاں جگہ عطا فرمائی؟ ... اللہ تعالیٰ نے انہیں

..... ریاض البقیع میں

..... نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حجرہ میں

..... اور محبوب ﷺ کے قدموں میں

دفن ہونے کی جگہ عطا فرمادی..... اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی یہ قدر

دانی تھی۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ پر عنایت و بخشش

حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ بچپن میں ہی کسی نے ان کو غلام بنا لیا۔ بالآخر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہ وہیں رہنے لگے۔ ان کے والد ان کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے۔ وہ ان کو ڈھونڈتے، روتے اور اشعار کہتے تھے۔ کسی نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تو فلاں جگہ پر موجود ہے۔ چنانچہ ان کے والد اور بچا ان کو لینے کے لئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے زید رضی اللہ عنہ سے آکر ملاقات کی اور انہیں سمجھایا کہ میں بھی تیرے لئے اداس ہوں، تمہاری والدہ بھی اداس ہے اور دوسرے رشتہ دار بھی اداس ہیں۔ ہم نے تیری خاطر بہت سفر کئے، بہت سی مشقتیں اٹھائیں، اب آپ قسمت سے مل گئے ہیں، چنانچہ اب ہمارے ساتھ چلیں۔ چونکہ وہ انہیں بغیر اجازت کے نہیں لے جاسکتے تھے اس لئے ان کو سمجھانے کے بعد وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ

”اے قریش کے سردار! آپ بنو ہاشم کی اولاد بڑے کریم لوگ ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔“

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

”میں یہ اختیار زید رضی اللہ عنہ کو دیتا ہوں، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اسے جانے کی اجازت ہے اور اگر یہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں زبردستی بھیجنا نہیں چاہتا۔“

جب حضرت زید کے ذمے بات لگی تو انہوں نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پر ڈالی اور ایک نظر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر نبی علیہ

الصلوة والسلام کی گود مبارک میں آکر بیٹھ گئے اور ایک بچہ ہونے کے باوجود کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی ﷺ! میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ جب وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے تو اللہ کے محبوب ﷺ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے،

”آج سے میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔“

سبحان اللہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کی گود کی بجائے نبی علیہ السلام کی گود کو پسند کیا، اللہ رب العزت کی قدر دانی دیکھئے کہ صحابہ کرام ان کو پوری زندگی ”زید بن محمد رضی اللہ عنہ“ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی ایک رشتہ دار عورت سے ان کی شادی کر دی تھی۔ نہ صرف یہی بلکہ تمام صحابہ میں سے صرف آپ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا (الاحزاب: ۳۷)

[پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی عرض، ہم نے اس کو تیرے

نکاح میں دے دیا]

صحابہ کرام ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا مقام

حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان پر کتنی مہربانی فرمائی کہ ان کے بیٹے کو امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ حالانکہ صحابہ میں بڑے بڑے اکابر موجود تھے۔ لیکن یہ چھوٹی عمر میں امیر بن کے جا رہے تھے۔ اللہ کی شان کہ نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا یا اور انہیں لشکر کا امیر بنایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ کچھ صحابہ کرام کو بیت المال سے کچھ ہدیہ ملا کرتا تھا۔ ایسے سبب اس ہدیہ کے تعین کی ضرورت پیش آئی تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن

عمرؓ کے نام سامنے آئے۔ عبد اللہؓ نے نبی علیہ السلام کی بہت خدمت کی۔ وہ امام المحدثین تھے، اور علم میں بڑا مقام رکھتے تھے۔ صحابہ میں ان کا ایک مقام تھا۔ لوگ ان کے پاس حدیث کی روایت کے لئے آتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان کا ماہانہ تھوڑا متعین کیا اور اسامہ بن زیدؓ کا ماہانہ زیادہ مقرر کر دیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے آکر اپنے والد سے پوچھا، ابا جان! آپ نے اسامہ بن زیدؓ کا ماہانہ زیادہ مقرر کیا اور میرا کم متعین فرما دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے عجیب جواب دیا۔

”بیٹا میں نے یہ کام اس لئے کیا کہ تیری نسبت اسامہ اور تیرے باپ کی نسبت اسامہ کا باپ اللہ رب العزت کے محبوب ﷺ کو زیادہ محبوب تھا“ یہ تو ان کا اپنا قول ہے مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان کے والد کو نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کو قرب کی ایک نسبت مل گئی تھی اس لئے حضرت عمرؓ نے اس نسبت کا لحاظ رکھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کی بہ نسبت ان کا ماہانہ زیادہ متعین فرما دیا۔۔۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر دانی ہے۔

حضرت سلمان فارسیؓ کی بے مثال حوصلہ افزائی

حضرت سلمان فارسیؓ ایک صحابی ہیں۔ وہ ایران میں رہتے تھے۔ آتش پرست تھے۔ ان کے والد کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ہر وقت آگ جلانے رکھتے تھے۔ وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔۔۔ ان بچاروں کا خدا کہیں بجھ نہ جائے لہذا اس کو لکڑیاں دینی پڑتی ہیں۔۔۔۔۔ اس نے حضرت سلمان فارسیؓ سے کہا کہ بیٹا! آپ کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آگ جلتی رہنا چاہئے۔ یہ اچھے بھلے بڑی عمر کے ہو گئے مگر ان کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا۔

ایک مرتبہ ان کا والد بیمار ہو گیا۔ اس نے ان کو بھیجا کہ زمینوں پر جاؤ، وہاں

سے پیسے لے کر آنے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ سیدھا جانا اور سیدھا آنا، وقت ضائع نہ کرنا۔ انہوں نے پہلے کبھی باہر نکل کر نہیں دیکھا تھا، اب ان کو باہر نکلنے کا موقع ملا۔ چنانچہ جب باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک راہب (عیسائیوں کا عالم) ان کو مل گیا۔ انہوں نے اس راہب سے راستہ پوچھا۔ ان کی آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ راہب نے ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا۔ اس طرح بات چیت سے ان کو راہب کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک چرچ ہے، میں وہاں پر ہوتا ہوں، تجھے جب موقع ملے میرے پاس سے ہو کر جایا کرو۔ چنانچہ وہ جب بھی ادھر آتے جاتے وہ اس کو مل کر جاتے۔

راہب نے ان کے سامنے عیسائیت کی تعلیمات پیش کیں۔ اس وقت عیسائی مذہب سچا مذہب تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے لہذا میں یہ مذہب اختیار کروں گا۔ یہ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا میں یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ، ہاں، مگر ہمارے بڑے عالم فلاں شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو ان کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں گا؟ راہب نے کہا کہ وہاں قافلے جاتے ہیں، جب اگلا قافلہ جائے گا تو میں آپ کو اس قافلے والوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بس مجھے اطلاع دے دینا، میں گھر سے آ جاؤں گا کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو ابو مجھے آگ جلانے پر ہی رکھیں گے اور اس کی وجہ سے میری زندگی بھی نہیں سنورے گی لہذا بہتر ہے کہ میں وہاں جا کر علم حاصل کر لوں۔

جب قافلہ جانے لگا تو اس راہب نے ان کو اطلاع کر دی اور یہ قافلے کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جس کے پاس گئے وہ بڑی عمر کا عالم تھا۔ انہوں نے اس عالم سے تقریباً ایک سال تک پڑھا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی

بڑے پریشان ہوئے کہ میں ان سے پڑھنے آیا تھا اور یہ فوت ہو گئے ہیں۔
 پھر وہ ان سے بھی بڑے عالم کے پاس گئے۔ وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان
 کے پاس کچھ عرصہ پڑھا ہی تھا کہ وہ بھی بیمار ہو گئے۔ لہذا انہیں پھر پریشانی ہوئی۔
 اسی پریشانی کے عالم میں ان سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ
 کوئی بات نہیں، آپ میرے بعد قلاں سے علم حاصل کر لینا۔ چنانچہ جب وہ عالم
 فوت ہوئے تو وہ تیسرے کے پاس چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھئے کہ تیسرا بھی بوڑھا
 تھا وہ بھی بیمار ہو گیا۔ اب تو حضرت سلمان فارسی ؓ نے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا
 معاملہ ہے کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں ادھر استاد مجھے داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔
 اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک کچی بات بتاتا
 ہوں۔ اب تجھے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے پوچھا،
 وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں نبی آخر الزماں ﷺ نے
 تشریف لانا ہے، میں نشانیاں بتا دیتا ہوں لہذا آپ کوشش کر کے اس علاقے میں
 چلے جائیں جہاں انہوں نے آنا ہے، وہاں جا کر ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ یہ سن کر وہ
 بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس نے انہیں وہ نشانیاں بھی بتا دیں اور ایک قافلہ والوں
 کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ بھی کر دیا۔ اس زمانے میں مدینہ کو شرب کہا جاتا تھا۔
 قافلہ والوں نے درمیان میں بد عہدی کی کہ یہ بچہ ہے اور اس کا کوئی ولی وارث
 نہیں، انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر انہیں ایک غلام کی حیثیت سے بچا دیا اور انہیں
 ایک یہودی نے خرید لیا۔ ان کا وہاں کوئی واقف نہ تھا۔ البتہ انہوں نے جب یہ علاقہ
 دیکھا اور ان نشانیوں کو دیکھا جو ان کے استاد نے انہیں بتائی تھیں تو ان کو تسلی ہو گئی کہ
 یہ علاقہ وہی ہے جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ چنانچہ
 دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہیں رہوں گا۔

اس یہودی کا کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ وہ سارا دن اس میں کام کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کھجور کے ایک درخت پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے کہ اس یہودی کا ایک دوست اسے ملتے آیا۔ وہ اس یہودی کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ کہنے لگا کہ مکہ سے ایک آدمی یہاں آئے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے نبوت کے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے شوق میں اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی کیونکہ وہ پہلے ہی ایسی خبر پانے کے منتظر تھے..... ماشاء اللہ! بچوں کا کام ایسا ہی ہوتا ہے..... آکر اس یہودی سے پوچھنے لگے کہ جی! وہ کون سے نبی تشریف لائے ہیں۔ یہودی نے جب یہ سنا تو اس نے انہیں زور سے ایک تھپڑ لگایا اور کہا کہ جا تو اپنا کام کر۔ ان کو چھلانگ لگانے سے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی، ساتھ ہی تھپڑ کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی۔ پھر جا کر خاموشی سے کام کرنے لگے۔ پھر اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں۔ بالآخر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، میں اس دن جا کر بستی والوں سے پوچھوں گا کہ کون آئے ہیں۔ چنانچہ وہ چھٹی کے دن بستی میں پہنچے اور پوچھتے پوچھتے وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔

ان کو استاد نے نبی آخر الزمان ﷺ کی دو نشانیاں بتائی ہوئی تھیں ایک نشانی تو یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور دوسری نشانی یہ کہ وہ صدقہ کا مال قبول نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ پیسے لا کر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ کے پیسے ہیں آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے محبوب ﷺ نے ارشاد فرمایا، نہیں ہم تو صدقہ نہیں لیتے..... ایک نشانی پوری ہو گئی..... پھر کسی دوسرے موقع پر عرض کیا، جی یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ آپ ﷺ نے وہ ہدیہ قبول فرمایا.....

اس طرح دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ ماشاء اللہ اب ان کے دل کو تسلی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر آپ ﷺ کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں اپنی کیفیت بیان کی۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم آتے رہا کرو۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ وہ چھٹی کے دن محبوب ﷺ کی خدمت میں آجاتے اور دن گزار کر چلے جاتے۔

کچھ عرصہ بعد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت نے اتنا جوش مارا کہ کہنے لگے کہ اب تو مجھ سے جدا نہیں رہا جاسکتا۔ اللہ کے محبوب ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس یہودی سے جا کر طے کر لو، وہ جو شرط بھی لگائے کہ وہ تمہیں اتنے پیسے لے کر چھوڑ دے گا، وہی شرط طے کر لو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اسے کہا کہ جی آپ مجھے آزاد کر دیں، اس کے بدلے آپ جو رقم کہیں وہ ادا کر دوں گا یا جو کام کہیں گے وہ کر دوں گا۔

وہ یہودی بڑا تیز تھا۔ اس نے کہا، میں دو شرطوں پر آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کھجوروں کے تین سو درخت لگاؤ، جب وہ پھل دینا شروع کر دیں گے تب پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آج درخت لگائیں تو پھل لگنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ تم تین اوقیہ سونا مجھے دینا۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے سونے میں تو پچاس غلام آجاتے ہیں۔ یہ کہاں سے اتنا دے سکے گا۔

انہوں نے اس کی یہ دونوں شرطیں قبول فرمائیں اور آ کر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں بھی بتا دیا..... وہ ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے سونے کا ایک ڈلا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہ سونا ان کو دے دیا اور فرمایا، سلمان! اللہ تعالیٰ نے تیرا کام

آسان کر دیا ہے، جاؤ اور اسے یہ دے دو۔ اب یہ لے گئے اور اس یہودی کو جا کر وہ سونادے دیا۔ سونے کا وہ ڈلا دیکھنے میں تو چھوٹا سا لگتا تھا لیکن جب اس نے وزن کیا تو بالکل پورا نکلا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید ترازو میں کوئی خرابی ہو۔ چنانچہ اس نے ترازو کو ٹھیک کیا اور پھر تولیا۔ پھر وزن پورا نکلا۔ اس طرح اس نے کئی بار وزن کیا اور ہر بار وزن برابر نکلا۔ بالآخر وہ حیران ہو کر کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، اب کھجوروں کا باغ لگاؤ۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پھر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین تیار کر دو اور ہمارا انتظار کرنا، ہم آ کر تمہارے ساتھ کھجوریں لگوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے ساتھ کھجوریں لگوائیں اور ان کھجوروں نے اسی سال پھل اٹھا لیا۔ اللہ اکبر!!! جب دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو اسے آزاد کرنا پڑا۔ آزاد ہو کر وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آگئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! میں حاضر ہوں، اب میرے لئے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اب تم اصحاب صفہ میں شامل ہو جاؤ..... جو فقراء مکہ مکرمہ، حبشہ اور دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے ان کے لئے ایک چبوترہ سا بنا ہوا تھا، اس پر وہ رہتے تھے، ان کو اصحاب صفہ (چبوترہ والے) کہا جاتا تھا..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور ان کے مانیٹر بن گئے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قدر و ثواب عطا فرمائی۔

اپنا گھر کس لئے چھوڑا تھا؟..... اللہ تعالیٰ کے لئے

اپنے رشتہ داروں کو کس لئے چھوڑا تھا؟..... اللہ تعالیٰ کے لئے

تو جس نے اپنا گھریا اور اپنے رشتہ دار اللہ کی رضا کے لئے چھوڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی قدر دانی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،

المسلمان منا اهل البيت

[مسلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے]

تو اللہ کے محبوب ﷺ نے حضرت سلمان ؓ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اللہ اکبر!!! رشتہ داروں کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے ان کی نسبت کن کے ساتھ کر دی؟ اہل بیت کے ساتھ۔

☆..... حضرت عبد اللہ ؓ پر شفقت و مہربانی

حضرت عبد اللہ ذوالجبارین ؓ ایک صحابی ہیں۔ ان کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ وہ دوستوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور وہ چچا کے پاس رہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اظہار نہیں کروں گا۔ لیکن ایمان کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں تاکہ عشق اور مشک نہیں چھپتا۔ یہ ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہے لہذا یہ بھی نہیں چھپتا۔ چچا نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو تم واپس کفر پر آ جاؤ اور اگر نہیں آنا تو پھر گھر سے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میں گھر سے تو جا سکتا ہوں لیکن دوبارہ کفر پر نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا، پھر گھر چھوڑ دو۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی تمہیں میں نے لے کر دیئے تھے لہذا یہ بھی اتار دو۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے انہیں پکڑ کر مارا بھی سہی اور لباس بھی پھاڑ کر اتار دیا اور انہیں بالکل بے لباس حالت

میں گھر سے دھکا دے دیا۔

ان کی والدہ کو دکھ تو ہوا مگر بول نہیں سکتی تھیں۔ لہذا اس نے یہاں سے ایک چادر پھینک دی کہ میرا بیٹا کم از کم اپنا ستر تو چھپالے گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ چادر اٹھا لی اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ ایک کو تہہ بند کی طرح باندھ لیا اور ایک اوپر لپیٹ لیا..... یہ وہ نوجوان تھا جو قیمتی کپڑے پہنتا تھا اور لوگ اس کے حسن و جمال کی مثالیں دیا کرتے تھے، آج وہ دو چادروں میں لپٹ کر اپنے گھر سے جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں ذوالحجاء دین یعنی ”دو چادروں والے“ کہا جاتا ہے..... چادریں لپیٹ کر سوچا کہ کہاں جاؤں؟ دل نے کہا کہ ایک ہی تو ہستی ہے جن سے محبت کا سودا کیا ہے اور کہاں جاتا ہے، جن کی خاطر گھر چھوڑا اب انہی کے در کو جا کر پکڑ لیتا ہوں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔

اس وقت اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہؓ اس حالت میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے پہچان لیا کہ

۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے
وہ آ رہا ہے کوئی شہ غم گزار کے

حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی ﷺ! میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ مجھے مارا گیا، لباس اتارا گیا اور گھر سے نکال دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اب اصحاب صفہ کے ساتھ رہو۔ چنانچہ انہوں نے اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔

ان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ حتیٰ کہ وہ اس محبت میں مغلوب الحال ہو کر کبھی کبھی اونچی آواز سے اللہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگے۔

جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے سنا تو فرمایا، عبد اللہ! اتنی اونچی آواز میں ذکر نہ کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پتہ چلا تو فرمایا،

”عمر! عبد اللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔“

ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جہاد کے لئے تشریف لے گئے۔ حضرت عبد اللہؓ بھی ساتھ تھے۔ وہ راستے میں ایک جگہ بیمار ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عبد اللہؓ بیمار ہیں تو آپ ﷺ ابو بکرؓ و عمرؓ کے ہمراہ عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ جب آپ ﷺ وہاں تشریف لائے تو یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عبد اللہؓ کے سر کو اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ، یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ ان کا سر نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے اور ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر لگی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام ان سے محبت کی باتیں فرما رہے ہیں اور تسلیاں دے رہے ہیں۔ اسی تسلی دینے کے دوران ان کا آخری وقت آ گیا اور ان کی روح اس حالت میں نکلی کہ ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پر تھیں اور سر نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں تھا۔ گویا کہ وہ زبانِ حال سے یوں کہہ رہے تھے،

۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا

میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

اسی مضمون کو کسی اور شاعر نے یوں بیان کیا ہے،

۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے

یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

جب روح پرواز کر گئی تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبد اللہ کو نہ ہلا

دو۔ چنانچہ صحابہ ان کو نہلانے میں مشغول ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر

مبارک بھجوائی اور فرمایا کہ عبد اللہ کو میری اس چادر میں کفن دینا۔

اب اللہ تعالیٰ کی قدر دانی دیکھئے کہ جس بدن کو اللہ کے لئے بے لباس کیا گیا تھا، اسی بدن کو اللہ کے محبوب ﷺ کی مبارک چادر سے ڈھانپا گیا..... اللہ اکبر!!!
..... نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ قبر کھودی گئی۔ شریعت کا حکم ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے لئے وہ بندہ قبر میں پہلے اترے جو اس میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو۔ یہ تو اپنے گھر بار اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ اس وقت سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے لیکن اللہ کے محبوب ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سب سے قریبی تو میں ہوں لہذا عبد اللہ کو قبر میں اتارنے کے لئے میں ہی اس کی قبر میں اتروں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ان کی قبر میں تشریف لے گئے۔ جب آپ ﷺ نے تشریف لے گئے تو حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ نے حضرت عبد اللہؓ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،

”عمر! اپنے بھائی کو میرے حوالے کر دو اور ان کے اکرام کا خیال رکھنا۔“

چنانچہ انہوں نے حضرت عبد اللہؓ کو نبی علیہ السلام کے حوالے کیا اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں ان کو لے کر اپنی امانت کو اللہ کے سپرد کر دیا..... دفن تو سب لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ دفن ہونا بھی عجیب ہے۔..... اللہ اکبر کبیرا

..... کسی کی قبر میں باپ اترتا ہے

..... کسی کی قبر میں بیٹا اترتا ہے

..... کسی کی قبر میں دوست اترتا ہے

..... لیکن حضرت عبد اللہؓ کو قبر میں اتارنے کے لئے اللہ رب العزت نے

اپنے محبوب حضرت محمد ﷺ کو ان کی قبر میں اتارا۔

جب اللہ کے محبوب ﷺ نے ان کو قبر میں لٹایا تو اس وقت آپ ﷺ نے

ایسے دعائیہ کلمات کہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو تڑپا کے رکھ دیا۔ حضرت عمرؓ یہ واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے کہ ان الفاظ کو سن کر تو میں تڑپ اٹھا اور میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش! آج عمر کی لاش ہوتی جسے اللہ کے محبوب ﷺ اس طرح دفن کر رہے ہوتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت! وہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی؟ فرمانے لگے کہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عبد اللہؓ کو زمین پر رکھا تو دعا میں یہ فرمایا،

”اللہ! میں عبد اللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبد اللہ سے راضی ہو جا۔“

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ بھی قدر دان ہیں اور اللہ کے محبوب بھی قدر دان ہیں۔

قرضِ حسنہ دینے پر اللہ تعالیٰ کا اظہارِ خوشنودی

ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کو ہدیہ کے طور پر ایک لاکھ روپیہ دے اور پھر اسے اس میں سے ایک روپے کی ضرورت پڑ جائے کہ کسی کو دینا ہے تو وہ توقع کرتا ہے کہ میں نے اس کو ابھی ایک لاکھ روپیہ دیا ہے اگر یہ ایک روپیہ دے بھی دے گا تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ ہم اس کو بڑی بات نہیں سمجھتے لیکن اللہ رب العزت کا احسان دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے خزانوں سے نعمتیں دیں، مال اور رزق دیا، اب اس دیئے ہوئے رزق میں سے اگر اس کو کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے جو میرے راستے میں خرچ کیا ہے یہ تم نے مجھے قرضِ حسنہ دے دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (الحديد: ۱۱)

[کون ہے ایسا قرض دے اللہ کو اچھی طرح]

اے مالک! دیا بھی تو آپ نے ہی تھا، اگر ہم نے اس میں سے کچھ آپ کی راہ میں خرچ کر بھی دیا تو کون سی بڑی بات کی۔ مگر نہیں، وہ قدر دان ہیں۔ ان کے

خزانوں کی کوئی اچھا نہیں ہے۔

وَاللّٰهُ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (المنافقون: ۷)

[اور آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں]

روزہ دار کی قدر و منزلت

جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے کی وجہ سے اس کے منہ میں سے مہک آتی ہے تو وہ مہک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے... اللہ اکبر... قدر دانی دیکھئے کہ بندے نے اللہ کے حکم پر لبیک کہی، پھر اس کے منہ سے ایسی بو آئی جو کسی کو اچھی نہیں لگتی، مگر نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ محبت اور احسان کا تعلق ہے اس لئے بندے کے منہ کی بدبو کی بھی قدر دانی فرما رہے ہیں۔

جس کا عمل ہو بے غرض

جس بندے نے بھی ”ان“ کی خاطر قربانی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، خواہ وہ عمل چھوٹا تھا یا بڑا تھا۔

جس کا عمل ہو بے غرض
اس کی جزا کچھ اور ہے

وہاں تو یہ دیکھتے ہیں کہ میری رضا کے لئے کیا یا نہیں، چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتے۔ اگر بندہ پہاڑوں جیسے اعمال کر کے جائے گا اور دل میں دکھاوا ہوگا تو اس کے عملوں کو ٹھوکر لگا دیں گے کہ ان کو لے جاؤ، تم نے مدرسے بنائے تھے اور تقریریں کی تھیں تاکہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، فقد قیل (پس وہ کہا جائے گا)، جاؤ، ہمارے

پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہے۔ ایسے بے عمل عالم کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اور جو بندہ چھوٹا سا کام بھی اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لئے کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی قدر دانی کی جائے گی۔

زبیدہ خاتون پر نظرِ کرم

ہارون الرشید کی بیوی ”زبیدہ خاتون“ بڑی نیک اور دین دار ملکہ تھی۔ اس کو قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں تین سو حافظات تنخواہ پر رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کی تین شفٹیں بنائی ہوئی تھیں۔ ہر شفٹ میں ایک سو حافظات ہوتی تھیں۔ ان حافظات کو محل کے مختلف کمروں، برآمدوں اور کونوں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کر فقط قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا۔ اس طرح پورے محل میں ہر وقت سو حافظات کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔

اس خاتون کو پتہ چلا کہ جب لوگ سفر حج پر جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا، اس لئے وہ اپنے ساتھ سواریوں پر پانی لا کر لے جاتے ہیں، جب کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے تو بسا اوقات لوگ پیاسے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو کئی لوگ فوت ہی ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے فرمائش کر کے کوئی نہ کوئی کام کرواتی ہے۔۔۔۔۔ اس نے بھی اپنے خاوند سے کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوائیں جو میدانِ عرفات تک پہنچے تا کہ حاجی لوگ جب اس کے قریب سے گزریں تو ان کو پانی ملتا رہے۔ ہارون الرشید نے اسکی فرمائش کو پورا کر دیا اور ایک عظیم الشان نہر بنوادی۔ اس نہر سے ہزاروں انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں نے پانی پیا اور فائدہ اٹھایا۔

ذرا سوچیں کہ کسی کو پانی کا ایک پیالہ پلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ قیامت کے دن ایک جہنمی کسی جنتی کو دیکھ کر اسے پہچان لے گا اور کہے گا کہ آپ نے مجھ سے ایک

مرتبہ پانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا تھا۔ وہ کہے گا، ہاں۔ وہ کہے گا کہ آپ اللہ کے حضور میری شفاعت کر دیجئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک پیالہ پانی پلانے پر وہ جنتی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمادیں گے۔ ایک پیالہ پانی پلانے کی اللہ رب العزت کے ہاں اتنی قدر ہے۔

انسان تو بالآخر انسان ہے۔ جانور کو پانی پلانا بھی بہت قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی پوری زندگی کبیرہ گناہوں میں گزار دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا، گرمی کا موسم تھا، اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور پیاس کی وجہ سے وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کے دل میں ترس آیا اور اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ کوئی چیز باندھی اور پانی ڈال کر اس کتے کو پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا تو کتے کو ہوش آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ صرف کتے کو پانی پلانے پر اس کی زندگی کے سب کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا گیا۔ اب سوچئے کہ پیاسے کو پانی پلانا کتنا بڑا عمل ہے۔

زبیدہ خاتون نے لاکھوں پیاسوں کو پانی پلایا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو وہ کسی کو خواب میں ملی۔ اس نے پوچھا، زبیدہ! تیرا آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ بس مجھ پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں! تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے، تو نے نہر بنوا کر بہت بڑا کام کیا، تیری تو بخشش ہونی ہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا، وہ کیوں! وہ کہنے لگی کہ جب میرا نہر والا عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم نے تو نہر اس لئے بنوائی تھی کہ تمہارے پاس بیت المال کا پیسہ تھا، اگر نہ ہوتا تو نہیں بنوا سکتی تھی، یہ کوئی ایسا کام نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لئے کون سا عمل کیا؟ وہ کہنے لگی کہ

میں یہ سن کر گھبرا گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔

اس گھبراہٹ میں اللہ رب العزت کی رحمت میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، ہاں تیرا ایک عمل ایسا ہے جو تم نے ہمارے لئے کیا تھا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے لقمہ توڑا کہ میں اسے اپنے منہ میں ڈال لوں، منہ میں ڈالنے سے پہلے ادھر سے اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑی، تمہارے سر پر پوری طرح دوپٹہ نہیں تھا اور آدھا سر ننگا تھا، اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے، تم نے اپنی بھوک کو روکا، لقمہ نیچے رکھا اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد لقمہ کھایا، تو نے لقمہ میں جو تاخیر کی یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، بس اس کی وجہ سے تیری مغفرت کی جاتی ہے..... سبحان اللہ..... اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری رضا کے لئے کیا کیا گیا۔ اب یہ عمل دیکھنے میں چھوٹا سا ہے مگر چونکہ اس نے یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کیا اس لئے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر بھی زیادہ ہوئی۔

ایک بت پرست کی پکار اور اس کی قدر دانی

ایک بت پرست تھا۔ وہ پریشان حال ہو کر ساری رات اپنے بت سے دعائیں مانگتا رہا۔ وہ اس کے سامنے یا صنم یا صنم پکارتا رہا۔ مگر کوئی بات نہ بنی۔ حتیٰ کہ اسے اونگھ آنے لگی۔ اونگھ میں اس کی زبان سے یا صمد یا صمد نکل گیا۔ صمد اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جیسے ہی اس نے یا صمد کہا اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پروردگار عالم نے فرمایا،

لَيْسَكَ يَا عَبْدِي [میرے بندے! میں حاضر ہوں]

جب پروردگار عالم نے یہ جواب دیا تو فرشتے حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے پروردگار عالم! وہ ایک بت پرست ہے، وہ ساری رات بت کے نام کی تسبیح جپتا رہا،

اس نے اونگھ کی وجہ سے غفلت میں یا صدمہ کہا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ٹھیک ہے کہ وہ بت پرست تھا اور ساری رات بت کے نام کی تسبیح جپتا رہا، اس بت نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور اس نے اونگھ میں مجھے پکارا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا..... اللہ اکبر!!!..... جو پروردگار اتنا قادران ہو، کیا ہمیں اس کی قدر دانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔

بخشش کا پروانہ

ایک مشہور محدث کا واقعہ ہے کہ وفات کے بعد کسی کو خواب میں ملے۔ اس نے پوچھا، حضرت! آپ تو محدث تھے اس لئے مغفرت ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، نہیں علم کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی، ایک اور چھوٹا سا عمل تھا جو پروردگار کو پسند آ گیا۔ اس نے پوچھا، حضرت! آپ کا وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ حدیث پاک لکھ رہا تھا، میں نے اپنے قلم پر سیاہی لگائی تو اس قلم پر ایک پیاسی مکھی آ کر بیٹھ گئی اور اس سیاہی کو پینے لگی، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں لکھوں گا تو یہ اڑ جائے گی، لہذا میں نے تھوڑی دیر کے لئے اس قلم کو ہاتھ میں پکڑ لیا تا کہ وہ مکھی سیاہی کو پی لے۔ وہ مکھی سیاہی پی کر اڑ گئی اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آ گیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے مکھی کی پیاس کو بجھایا، آج ہم تیری پیاس کو بجھاتے ہیں اور تجھے جنت عطا فرمادیتے ہیں..... اب دیکھنے میں یہ عمل کتنا چھوٹا سا ہے لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کیا گیا اس لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا۔

جہنم سے آزادی کی خوشخبری

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ

میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وعظ و نصیحت کی باتیں (مکتوبات شریف) لکھ رہا تھا۔ اس دوران میری قلم نے لکھنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کے ناخن پر اپنے قلم کو ٹھیک کیا۔ پھر اس کے بعد لکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد نماز کے لئے وضو کی ضرورت پیش آئی تو میں اٹھ کر بیت الخلاء میں گیا۔ ابھی میں بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لئے بیٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ میری نظر ہاتھ کے انگوٹھے پر پڑی تو میں نے اس پر سیاہی لگی ہوئی دیکھی۔ یہ دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ یہ وہ سیاہی ہے جسے میں قرآن و حدیث کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں، اگر میں یہاں فائز ہوا اور میں نے استنجا کیا تو یہ سیاہی اس نجس پانی میں شامل ہو جائے گی جب کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے تقاضے کو دبا یا اور میں نے بیت الخلاء سے باہر آ کر اس سیاہی کو پاک جگہ پر دھو دیا۔ جیسے ہی دھویا اسی وقت الہام ہوا۔

”احمد سرہندی! اس ادب کی وجہ سے ہم نے تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔“

اب یہ عمل دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے سے ہیں مگر اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑے موٹے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں ہر چیز کو اسی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے لئے کیا ہے یا نہیں۔ اسی کو خلوص کہتے ہیں۔ انسان کے اندر خلوص خود بخود پیدا نہیں ہوتا بلکہ ہر عمل میں اخلاص کی نیت کا ہونا سیکھنے سے آتا ہے۔

گناہوں کے ریکارڈ کا خاتمہ

ذرا غور کیجئے کہ اگر دنیا میں کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا سرزد نہ ہو بلکہ اس پر غلط مقدمہ بن جائے تو عدالت تحقیقات کرتی ہے۔ اگر تحقیقات کے بعد پتہ چلے کہ یہ مقدمہ جھوٹا تھا تو عدالت مقدمہ تو خارج کر دیتی ہے مگر اپنے پاس مقدمے کا ریکارڈ ضرور رکھتی ہے۔ اب اگر وہ عدالت سے کہے کہ جی ریکارڈ ختم کر دیں تو عدالت کہے گی، ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے کہ ثابت ہو چکا ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا، تم

بے گناہ ہو اور ہم نے مقدمہ بھی خارج کر دیا ہے لیکن ہم اسے اپنے ریکارڈ میں رکھیں گے کہ یہ بھی ایک مقدمہ تھا۔ دنیا کی عدالت کا معاملہ یہ ہے۔ اب ذرا اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھئے کہ ایک بندہ واقعی گنہگار تھا، ثابت ہو گیا کہ اس نے جرم کیا تھا لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر رحم کی اپیل کر دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور توبہ کے کلمات کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے فقط اس کے گناہ ہی معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس کا ریکارڈ ہی ختم کروا دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو لکھنے والے فرشتوں کی یادداشت سے بھی وہ گناہ مٹا دیتے ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن گواہی بھی نہ دے سکیں..... سبحان اللہ..... اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کی اتنی قدر دانی فرمائی.....!!!

لحجہء فکر یہ

عزیز طلباء! جو کام بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدر دان ہیں، ہم بے قدرے ہیں۔ ہم تو اتنے بے قدرے ہیں کہ نہ تو اللہ رب العزت کی اتنی قدر کی جتنی کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی اللہ کے رسول ﷺ کی کما حقہ قدر کی۔ پروردگار عالم کو قرآن مجید میں فرماتا پڑا:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (الزمر: ۶۷)

[انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی]

نہ ہی ہم نے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی پوری طرح قدر کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں

يُنحَسِرُونَ عَلَىٰ الْعِبَادِ ۗ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ. (س: ۳۰)

[افسوس ہے بندوں پر کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے]

پہلے زمانے میں انبیائے کرام کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور آج کے دور میں نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یوں ذہنیت ایک جیسی ہونے کی وجہ سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ آج دیکھیں کہ چہرے پر سنت کو سجانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،

”قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارے کو تھیلی پر رکھنا مشکل ہے“

آج حال یہ ہے کہ اگر گھر میں شیشے کا دور روپے کا گلاس ٹوٹ جائے تو ماں اپنے بچے کو تھپڑ لگا دیتی ہے اور اگر وہی بچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کسی سنت کو ذبح کر دیتا ہے تو ماں ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ گویا اس ماں نے محبوب ﷺ کی سنت کی قدر دو روپے کے برابر بھی نہ جانی۔

شادی کے موقع پر کہتے ہیں کہ جی سب کو منا لو۔ بھائی بہن کو منا لیتے ہیں..... کزن کو منا لیتے ہیں..... پڑوسی کو منا لیتے ہیں..... اور تو اور اگر کوئی کام کرنے والی بھی روٹھ کے چلی جائے تو اس نوکرانی کو بھی بندہ بھیج کے منوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شادی کا موقع ہے کوئی بات نہیں منالو۔ ارے! جہاں گھر کے خادموں اور نوکرانیوں کو بھی منالیا جائے اس شادی کے موقع پر ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اس شادی کے موقع پر اللہ کو بھی منا پائیں گے یا ناراض کر پائیں گے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کے محبوب ﷺ ہمارے اس کام سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ آج کل ہمارے گھر، گلی کوچے اور بازار نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں۔ ہمارے گھر میں کتنی سنتیں ذبح ہوتی ہیں، کوئی آنکھ ہے آنسو بہانے

والی..... کوئی ہے رات کو کڑھنے والا اور رونے والا..... بس بچہ کما رہا ہے اور باپ اس سے راضی ہے۔ چاہے طلال لارہا ہے یا حرام لارہا ہے۔

ایک صاحب اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی میرا بیٹا بڑا اچھا اور بڑا نیک ہے۔ وہ اتنا قابل ہے کہ پچاس ہزار روپے ماہانہ کماتا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر کہنے لگے: ”بس وہ تعلیم زیادہ حاصل کر گیا اے، ویسے تھوڑا جیسا بے ایمان ہو گیا اے۔“

ہم نے پوچھا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟..... وہ کہنے لگا، ”اوہ آہدھا اے بھی میں رب نوں نہیں مندا۔“

اعزازہ کریں کہ وہ پچاس ہزار کمانے پر اس کی تعریفیں کر رہا ہے اور اس کے دہریہ بننے پر اسے احساس ہی نہیں اور کہتا ہے کہ ایسے ہی تھوڑا سا بے ایمان ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ

آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر کسی کو بتا دو کہ میں عربی مدرسے میں پڑھتا ہوں تو دنیا دار حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔

..... آج سبزی بیچنے والے کی قدر ہے،

..... تاکہ چلانے والے کی قدر ہے،

..... دفتر کے چپڑاسی کی قدر ہے،

..... کیمٹی کے خاکروب کی قدر ہے،

لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ عربی مدرسہ میں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں..... گویا بے قدروں میں گھر گئے..... یاد رکھیں کہ اس دور میں دین کے اوپر جم جانا اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے آپ حضرات کو دین کی محنت کے لئے جن لیا۔

جب ہم کوئی سودا لینے جاتے ہیں تو اگر ہم سودے کے اندر کوئی نقص دیکھتے ہیں تو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ کوئی بندہ بھی عیب دار چیز لینا پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھئے کہ اس نے بندے کو پیدا کر کے اس کے اندر پاکی جانے والی خامیاں بھی گنوا دیں۔

کہیں فرمایا:

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (النساء: ۲۸)

[انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے]

کہیں فرمایا:

وَ كَانَ الْإِنْسَانُ هَبْجُولًا (الاسراء: ۱۱)

[انسان بڑا جلد باز ہے]

کہیں فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

[بے شک آدمی بنا ہے جی کا کچا] (المعارج: ۱۹)

کہیں فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ خَلُوعًا جُهُولًا (الاحزاب: ۷۲)

[یہ ہے بڑا بے ترس نادان]

انسان میں اتنے بڑے بڑے نقص ہیں۔ جب مال میں نقص ہو تو لینے والا

نہیں لیتا، مگر اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھئے کہ وہ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں

کہ یک طرفہ سودا کر کے اعلان فرمادیا:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ

(التوبہ: ۱۱۱)

[بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا]

اسی بات کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے،

تو بہ علم ازل مرا دیدی
 دیدی آنگہ بعیب بخزیدی
 تو بہ علم آں و من بعیب ہمہ آں
 رد سکن آنچه خود پسندیدی

[اے اللہ! تو نے مجھے ازلی علم کے ساتھ دیکھا، تو نے میرے تمام عیوب کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر خرید لیا، تو وہی علم والا ہے اور میں وہی عیبوں والا ہوں۔ اے اللہ! اب اسے رد نہ کر جسے تو نے خود پسند کیا تھا]

آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لئے جن لیا ہے آپ بھی اپنی دعا میں یہ اشعار پڑھا کریں۔

اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں آج کے انسان پر ہیں اتنی نعمتیں پہلوں پر نہیں تھیں۔ ہم بے موسم پھل کھاتے ہیں۔ پہلے یہ نعمت وقت کے اولیاء کو ملتی تھی۔ اس کے تذکرے قرآن مجید میں ہوئے کہ بی بی مریم کو بے موسم پھل ملے اور آج کا عام آدمی بے موسم کے پھلوں کا جوس پی رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی تو پھل کھانا ہی ہوا۔ واہ میرے مولا! ہم پر تیری کتنی نعمتیں ہیں۔ آج بھوکا رہ کر مرنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے اور زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول اور اس طرح کی مہلک بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو جتنی نعمتیں آج ہیں اتنی پہلے نہیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے شکوے آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ ہر بندے کی زبان پر شکوہ ہے..... الا ماشاء اللہ..... ذرا سی اونچ نیچ ہو

جائے تو اللہ تعالیٰ کے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں نہ آ رہا ہو تو اس سے پوچھیں، جناب! آپ مسجد میں نماز میں نظر نہیں آتے تو وہ کہے گا کہ ذرا طبیعت خراب تھی ٹھیک ہو گیا تو آؤں گا۔ کسی اور سے پوچھیں کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے تو وہ کہے گا کہ ذرا کاروبار کی پریشانی تھی ٹھیک ہو گئی تو آ جاؤں گا۔ گویا کہ ذرا بیمار ہوئے یا کاروبار ڈاؤن ہوا تو ہم جو دروازہ سب سے پہلے بھولتے ہیں وہ ہمارے خدا کا دروازہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بکری کو اس کا مالک آواز دیتا ہے تو وہ بکری بھی کھانا چھوڑ دیتی ہے اور مالک کے پیچھے آ جاتی ہے لیکن ہمیں کھول کھول کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے لیکن ہم سب کچھ سننے کے باوجود حرام کی جان نہیں چھوڑتے، اس لئے کہ ہم بے قدرے ہیں۔

قریبی رشتہ داروں کی قدر کریں

آج طبیعتیں ایسی بن گئی ہیں کہ انسان دوسروں کی قدر ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ہم سب سے پہلے اس پر تینچی چلاتے ہیں۔ ہماری اسی عادت کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (البقرة: ۱۷۷)

[اور وہ کاٹتے ہیں ان کو جن کو اللہ ملانے کا حکم دیتا ہے]

ہم تو اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو باپ کی طرح پالتا ہے لیکن جب چھوٹا بھائی جوان ہو جاتا ہے تو بچوں کی معمولی سی بات پر اپنے بڑے بھائی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے خون پسینے کی کمائی سے چھوٹے کو باپ بن کر پالا، سالہا سال اس کی پرورش کی..... ایم اے تک تعلیم دلوائی..... شادی کی..... گھر بنوا کے دیا..... لیکن بچوں کی چھوٹی سی بات پر یہ چھوٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آج ذرا گھروں میں

دیکھیں کہ

..... بہن بھائی سے نہیں بولتی
 بھائی بہن سے نہیں بولتا
 بیٹا باپ سے نہیں بولتا
 باپ بیٹے سے نہیں بولتا
 پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتا
 ساس بہو سے نہیں بولتی
 بہو ساس سے نہیں بولتی
 بھابھی نند سے نہیں بولتی
 نند بھابھی سے نہیں بولتی

..... حتیٰ کہ بعض جگہوں پر تو میاں بیوی آپس میں نہیں بولتے۔

بیوی سے پوچھو تو خاوند کے شکوے اور خاوند سے پوچھو تو بیوی کے شکوے۔ اگر خاوند مر جائے تو یہی بیوی بیٹھی آنسو بہا رہی ہوگی۔ پوچھا جائے کہ اب کیوں رو رہی ہو تو کہے گی، جی وہ میرے بچوں کا باپ تھا..... آخر اس نے مجھے چھت دی ہوئی تھی..... مجھے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا..... میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی... اب اسے اپنے خاوند کی اچھائیاں یاد آنے لگ گئیں۔ اور اگر بیوی مر جائے تو خاوند پریشان ہو جاتا ہے۔ پوچھا جائے کہ جناب! اب آپ کو کیا ہوا ہے، آپ تو کہتے تھے کہ میں اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہے گا، جی اس نے میرے بچوں کو سنبھالا ہوا تھا..... مجھے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی..... میں کہیں باہر آتا جاتا تھا تو مجھے تسلی ہوتی تھی لیکن اب تو میرے لئے مصیبت بن گئی..... اب بیوی کی قدر آگئی۔ بھئی! یہ قدر جو ہم مرنے کی بعد کرتے ہیں کیا اس کی زندگی میں قدر نہیں کر سکتے۔ اس ناقدری کی

بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب ہمیں ان کی قدر آتی ہے۔

انگریزوں میں دستور ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر منوں منوں کے حساب سے پھولوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اس پر کسی انگریز نے ایک نظم لکھی۔ اس وقت پوری نظم تو نہیں سنا سکتے۔ اس کا پہلا مصرعہ بہت ہی عجیب ہے۔ اس نے لکھا:

Why do we wait till a person die?

[یہ کیا بات ہے کہ کوئی مرتا ہے تو ہم پھول لے کے جاتے ہیں، ہم کسی کے

مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟]

ارے! اس کا کیا فائدہ، اگر تم اس کی زندگی میں اس کو پھول پیش کرتے تو اسے

بھی خوشی ہوتی اور خود تجھے بھی خوشی ہوتی۔ ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ

”بندے دی قدر آندی اے مرگیاں یا شرگیاں“

یعنی انسان کی قدر اسی وقت آتی ہے جب وہ مر جاتا ہے یا کہیں چلا جاتا ہے۔

ایسی سوچ رکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی قدر

کریں، بیوی کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، پیر استاد کی قدر کریں، نبی علیہ

الصلاۃ والسلام کی قدر کریں اور اپنے رب رحمان کی قدر کریں۔ ناقدرے نہ بن

جائیں کیونکہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو پروردگار کو جلال آتا ہے۔

ہمیں چاہئے کہ ہم ماں باپ کی قدر کریں، اس لئے کہ ماں باپ اگر ہڈیوں کا

ڈھانچہ بھی ہوں تو ان کا وجود اولاد کے لئے اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ وہ چارپائی پر

لینے بھی رہیں تو وہ جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اولاد ان دعاؤں کا کوئی بدلہ نہیں

دے سکتی۔ وہ تو ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ ان کا دل اپنی اولاد کے بارے میں کس

قدر تڑپ رہا ہوتا ہے۔

شیخ کی قدر و منزلت

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب شیخ زندہ ہوتے ہیں تو مریدین اس کی قدر نہیں کرتے۔ ان کو اپنے معمولات کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور جب شیخ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ موٹے موٹے آنسو گرا رہے ہوتے ہیں اور کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس جیسا شیخ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پڑھانے کے لئے تشریف لائے۔ وہ مسلم شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے حضرت کی خدمت میں دو سال تک رہے، وہ صبح و شام حضرت کا درس بھی سنتے تھے اور ان کو حضرت سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔ وہ دو سال تک سوچتے ہی رہے کہ میں حضرت سے بیعت ہو کر فیض پاؤں گا، مگر دو سال کے بعد ہمارے حضرت کی وفات ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں بیعت کا تعلق کن سے جوڑوں کیونکہ انہیں ہمارے حضرت جیسا کوئی دوسرا بندہ نظر ہی نہ آیا۔ اس بات کو سوچ کر وہ اکثر رو دیا کرتے تھے۔ بالآخر وہ حضرت کے غلاموں میں سے کسی غلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے زندگی میں کتنی بڑی غلطی کر لی، اگر میں ان سے بیعت ہو کر ایک مہینہ بھی ان کے ساتھ گزار لیتا تو شاید میرے باطن کے بننے کیلئے اتنا ہی کافی ہو جاتا۔ ان کا رونا آج بھی یاد آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ نعمتوں کی موجودگی میں کر لینی چاہئے۔ یہی سب سے اعلیٰ بات ہوتی ہے۔ اگر یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا تو یوں سمجھیں کہ اس جگہ پر حاضری کا مقصود حاصل ہو گیا۔

پیر استاد سے بدگمانی

ہم مسلمانوں کا یہ حال بنا ہوا ہے کہ ہم نے جس پیر استاد سے پڑھا ہوتا ہے اس

کی بھی بے قدری کرتے ہیں۔ کوئی ذرا سی بات ہو یا نہ ہو، بس سنی سنائی بات پر بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس بدگمانی پر ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔

ایک ناقابلِ عمل مشورہ

ایک مرتبہ ایک صاحبِ حرم شریف میں ملے۔ وہ کہنے لگے، جی مجھے آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن آپ کے بارے میں دل میں تھوڑی سی بدگمانی بھی ہے۔ میں نے کہا، اللہ خیر کرے، اللہ میری اصلاح فرمادے، اگر آپ نشانِ وہی کر دیں تو میں آپ کو اپنا محسن سمجھوں گا۔ وہ کہنے لگے، جی بدگمانی یہ ہے کہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے فوراً سوچ لیتے ہیں، پھر وہ بیعت ہونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور آپ اسی محفل میں ان کو بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ ان کو سوچنے کا موقع دیا کریں اور کچھ دنوں کے بعد بیعت کیا کریں۔ اب ذرا سوچئے کہ گویا وہ مشورہ دے رہے تھے کہ

..... جب اللہ کی رحمت اتر چکی ہوتی ہے

..... جب دل موم ہو چکے ہوتے ہیں

..... اور جب بندے توبہ کرنے کے لئے تیار ہو چکے ہوتے ہیں

تو اس وقت شیطان کو ورغلانے کے لئے ایک دو دن کا موقع مل جانا چاہئے اور بعد میں اگر کوئی بیعت ہونے کے لئے آئے تو بیعت کر لیا کریں..... نہ سرنہ پیر..... میں نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی اور بات ہوگی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمادے۔

میں نے کہا، اومیاں! دلوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت اترنے کی خاص نشانی ہوتی ہے۔ پھر میں نے کہا، آپ ذرا کسی بندے کے سامنے کوئی بات کریں اور اس بندے کو اسی وقت توبہ کرنے پر آمادہ کریں۔ وہ کہنے لگے، اگر میں ساری عمر لگا رہوں

گاتا تو کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا۔ میں نے کہا کہ یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، کہنے والا بھی اللہ کی طرف توجہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے دربار سے مانگ رہا ہوتا ہے اور سننے والے بھی اللہ کے دربار سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب دردِ دل کی ساتھ کوئی بات کہی جاتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ رحمتِ الہی کو جوش آجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کو موم کر کے توبہ کے لئے تیار فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال درجہ کی قدر دانی ہے۔

نعمت کی ناقدری پر عبرتناک سزا ملنے کا واقعہ

عزیز طلباء! نعمتوں کی قدر دانی انکی موجودگی میں کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا جلال ظاہر ہو جائے..... ایک عورت تنور پر روٹیاں پکایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا۔ اس کا بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کا ہو گیا۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ بہت محبت تھی۔ لہذا وہ ماں کے ساتھ ہی ہر وقت چمٹا رہتا تھا۔ ماں چاہتی تھی کہ روٹیاں پکاتے وقت یہ کہیں کھیلے، آرام کرے یا سو جائے، لیکن وہ پھر اٹھ کر آجاتا تھا۔ ایک دن وہ بڑی تنگ ہوئی۔ لہذا اس نے اسے بستر پر لٹایا اور کہا، خبردار! اگر اب تو میرے پیچھے آیا تو میں ماروں گی، آنکھیں بند کر اور سو جا۔

اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ اٹھا اور روتا ہوا پھر آ گیا۔ وہ ان پڑھ جاہل تھی لہذا اس نے غصے میں کہہ دیا،
”مرد اٹھی کے آ گیا ایس ٹوں تاں ستا سیں ونجیں ہا“

[تُو پھر اٹھ کر آ گیا ہے تُو تو سو یا سو ہی جاتا]

مطلب یہ کہ تجھے تو سلایا تھا تو ہمیشہ کی نیند سو ہی جاتا تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بددعا کو قبول فرمایا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بچے کو موت نہ دی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، سکول کے اندر تعلیم میں فرسٹ آیا، کالج کے اندر بھی فرسٹ آیا، حتیٰ کہ ایک

کامیاب بزنس میں بیٹا، وہ اتنا خوب صورت تھا کہ جب وہ گلیوں میں چلتا تھا تو مرد لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے کہ جوان بیٹا ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔

ماں نے اسکے رشتے کے لئے اپنے پورے خاندان میں سے جن کر لڑکی ڈھونڈی۔ شادی کے لئے تیاریاں مکمل کر لیں۔ ابھی شادی میں ایک دو دن باقی تھے کہ کوئی کام کرتے ہوئے اس نوجوان کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بل گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب جب ماں نے اس کی لاش دیکھی تو وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر سکی۔

اب وہ گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی اور تنکے چنتی رہتی۔ لڑکے اسے پاگل کہہ کر چھیڑتے تھے۔ مگر وہ پاگل نہیں تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے جلال میں آکر بیٹے والی نعمت لے لی تھی۔ گویا بد دعا کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے فرما دیا کہ اچھا میں نے تمہیں بیٹے کی نعمت دی تھی اور تو اس کی ناقدری کرتے ہوئے بد دعا دیتی ہے کہ تو سویا ہی سو جاتا، ہاں، میں ابھی اس کو موت نہ دوں گا، بلکہ میں اس نعمت کو پروان چڑھنے دوں گا، حتیٰ کہ جب یہ پھل پک کر تیار ہو جائے گا تو میں تیار شدہ پھل کو توڑوں گا تاکہ تجھے احساس ہو کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی ہے۔

وہ عورت اپنے بیٹے کی یاد میں یہ پڑھا کرتی تھی،

آدے ماہی تینوں اللہ وی لیاوے تے تیریاں نت وضاں تے لوڑاں
کملی کر کے چھوڑ گیوں تے میں کلکھ گلیاں دے رولاں
یہ عاجز اسی لیے بار بار کہا کرتا ہے کہ نعمتوں کی قدر دانی کے لئے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں تو پھر دوبارہ تا قدروں کو نہیں دیا کرتے۔ اس لئے نعمت کی موجودگی میں اس کی قدر دانی کی عادت ڈالیں..... مگر نعمت ہے..... بیوی نعمت ہے..... اولاد نعمت ہے..... ماں باپ نعمت

ہیں..... بہن بھائی نعمت ہیں..... مسلمان بھائی نعمت ہے..... صحت نعمت ہے..... سکون نعمت ہے..... رزقِ حلال نعمت ہے..... اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کر دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ضرورت قدر دانی کریں۔

بددعا دینے اور لینے سے بچیں

آج اس بے قدری والے گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ حق بھی یہی ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ۔ جب کہ ہم رب کا دیا کھاتے ہیں اور مخلوق کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔ بہنیں ذرا سی بات پر بھائی کو بددعا میں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ ذرا گھروں میں معلوم کر لیجئے۔ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھائی کا وہ سلوک نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ بھائی ہمت میں زیادہ ہوتے ہیں اس لئے چیزیں چھین لیتے ہیں اور ایک آدھ تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ بہن آگے سے بات تو نہیں کر سکتی مگر وہ بددعا میں دینا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس بہن نے کبھی یہ سوچا کہ جس بھائی کو آج میں بددعا دے رہی ہوں، اگر اللہ نے اس بددعا کو قبول کر لیا تو میرے بھائی کا کیا انجام ہوگا۔ جب وہی بھائی پکڑ میں آتا ہے تو اب یہی بہن دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ! میرے بھائی کو شفا دے دے، میرے بھائی کا کاروبار ٹھیک ہو جائے اور میرے بھائی کی قلاں پریشانی دور ہو جائے۔ کبھی بہن نے سوچا ہے کہ یہ تو میری اپنی ہی بددعا کا نتیجہ ہے۔

پیارے پروردگار کا پیار بھرا پیغام

عزیز طلباء! پروردگارِ عالم بندے کو اپنے در سے کبھی خالی نہیں جانے دیتے۔ حق یہ بتاتا ہے تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کے در سے رخ پھیر کر واپس جانا چاہتا

تو اللہ تعالیٰ دروازہ بھی بند کر دیتے اور پیچھے سے ایک اس کو ایک دھکا بھی لگوا دیتے کہ چاؤنچ ہو جا، مگر نہیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے پروردگار عالم اپنے اس بندے کو اپنی طرف واپس بلا تے ہیں اور فرماتے ہیں،

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . (الانفطار: ۶)

[اے انسان! تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا]

کیوں دھوکے میں پھرتا ہے؟ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ لوگوں سے کیوں دل لگاتا پھرتا ہے؟ فانی حسن کے پیچھے کیوں بھاگا پھر رہا ہے؟ ارے! چند کلوں کی متاع کے پیچھے بھاگنے والے! تیرا کریم پروردگار تیری طرف متوجہ ہے اور چاہتا ہے کہ تو اس کے قریب ہو جائے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ

میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے

انہی پتھروں پہ چل کے اگر آسکو تو آؤ

یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں جب کہ پروردگار کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے! اگر تو ایک بالشت میری طرف آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دو بالشت آئے گی، اگر تو ایک ہاتھ میری طرف آئے گا تو میری رحمت دو ہاتھ آئے گی اور اگر تو میرے در کی طرف چل کے جائے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی۔ تیرا کریم پروردگار تو متوجہ ہے مگر تو کب توبہ کرے گا؟ تو کب اپنے رب سے صلح کرے گا؟ تو کب گناہوں کو چھوڑے گا؟ تو کب شیطان کے در کو چھوڑ کر اپنے رب رحمان کی طرف متوجہ ہوگا؟..... جیسے ماں اپنے روٹھے ہوئے بچے کو پیار سے کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے! امی سے ناراض نہیں ہوتے، تیری ماں تجھ پر کتنی شفیق ہے۔ لگتا ہے کہ پروردگار بھی اسی انداز میں فرما رہے ہیں،

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . (الانفطار: ۶)

اے انسان! تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا

کریم پروردگار کے کرم کی انتہا

جب بندہ نوے سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، پیٹ میں آنت نہیں رہتی، منہ میں دانت نہیں رہتے، اس حالت میں لوگ اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، وہ ہر وقت کھانتا رہتا ہے، لوگ اسے اپنی جگہ سے اٹھا دیتے ہیں، مگر میں کوئی بھی اس کی قدر دانی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی پاس بٹھانے والا نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو (قدر) نہیں ہوتی..... اس وقت اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اب تک گناہ کئے، مالک کو ناراض کئے رکھا، میں اب اس نوے سال کی عمر میں اپنے مالک کو راضی کر لیتا ہوں، اگر وہ لاشی کے سہارے کپکپاتا ہو اللہ کے در پر حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مالک! میں اب تک بھولا رہا، اے اللہ! میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اے اللہ! میں جوانی لٹا بیٹھا، مال لٹا بیٹھا، میرا حسن و جمال زائل ہو گیا، اے اللہ! اب تو کوئی بھی میری بات نہیں سنتا، دنیا میں میرا کوئی بھی اپنا نہیں۔ اے اللہ! اس حال میں تیرے سامنے آیا ہوں۔ رب کریم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ میرے بندے! اب کیا لینے آئے ہو؟ تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ یہ بالکل نہیں پوچھتے بلکہ فقط اسکے آنے کی قدر دانی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے! تو چل کے آ گیا ہے، ہم تیرے چل کے آنے کو قبول کر کے تیرے گناہوں کو فقط معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ہم اتنے کریم ہیں کہ تیرے کئے ہوئے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔

رب کریم کا اور کرم دیکھئے۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو لیکن وہ سچی توبہ کر

لے تو اب کوئی بندہ اس کو گناہ کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ روایت میں آیا ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ سے سچی توبہ کر لی اور اس کے باوجود اس کو کسی بندے نے اس گناہ کا طعنہ دیا تو یہ طعنہ دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ پروردگار عالم اتنے قدر دان ہیں کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور طعنہ دینے والے لوگوں کی زبانیں بھی بند کر دیتے ہیں کہ تم میرے بندے کو طعنہ کیوں دیتے، وہ میرے ساتھ صلح کر چکا ہے تم کون ہوتے ہو طعنہ دینے والے۔ فرمایا کہ اسے مت طعنہ دو، اگر دو گے تو ہم تمہیں اسی گناہ میں ملوث کر کے تمہیں بھی گناہ کی ذلت دکھا دیں گے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجمع میں ایک بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی برکت سے پورے مجمع کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلیہ السلام نے وعظاً بلیغاً فرمایا اور سننے والے صحابہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ اس ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے رونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رونا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا کہ محفل میں لوگوں نے جتنا بھی مانگا اللہ حالی نے قبول فرمایا۔ کسی عارف نے کیا ہی اچھی بات کہی،

بیگناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے
مغفرت بولی، ادھر آئیں گناہگاروں میں ہوں
وہ کرشمے شانِ رحمت نے دکھائے روزِ حشر
چنچ اٹھا ہر بیگناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں

ایک سبق آموز واقعہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا اور تابعین میں

سے بنا۔ اس نے اپنی پہلی زندگی گانا گانے میں گزار دی تھی۔ اس کی آواز بڑی اچھی تھی۔ جب وہ گانا گاتا تھا تو لوگ اس کے شیدائی تھے۔ اس کے گرو سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس کی آمدنی بے شمار تھی۔ اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی۔

جب وہ بوڑھا ہو گیا تو دانت گر گئے جس کی وجہ سے وہ گا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ وہ مانگنے کے لئے واقف لوگوں کے پاس جاتا رہا۔ وہ کچھ عرصہ تو اسے دیتے رہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے بھی ان کو نہ کر دی۔ جب سب دوستوں نے نہ کر دی تو کئی کئی دن تک کھانے کو نہ ملتا۔ اس کو اپنی جوانی یاد آتی کہ میں اتنا حسین تھا، میری آواز کوئل کی مانند تھی، جب میں گاتا تھا تو ہزاروں لوگ میری آواز پر مرتے تھے اور میری جھلک دیکھنے کو ترستے تھے لیکن آج میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں اور کوئی بندہ مجھے ایک وقت کا کھانا دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس بڑھاپے، کمزوری اور بھوک کی حالت میں اس کا دل بڑا ہی کھٹا ہوا۔ اس نے سوچا کہ کاش! یہ راتیں میں اللہ کے لئے جاگا کرتا تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی اپنے دربار سے نہ دھکارتے، لیکن میں نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی۔ نہ حسن و جمال رہا، نہ مال رہا اور نہ ہی کچھ اور میرے پلے رہا، اب میں رب کو کیسے منادوں۔

چنانچہ وہ اسی سوچ میں گم ہو کر جنت البقیع میں چلے گئے اور قبروں کے درمیان ایک جگہ بیٹھ کر اپنی جوانی کو یاد کر کے رونے لگ گئے۔ انہوں نے روتے روتے دعا مانگی،

”رب کریم! میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں آپ کے حضور پیش کر سکوں، میرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب میں بوڑھا ہوں، لاٹھی کے سہارے چل کے آیا ہوں، نہ آنکھوں میں پیمائی ہے نہ

کانوں میں سماعت ہے، اے مالک! اب میں شرمندہ ہوں مگر میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنی قبر کے قریب ہو جاؤں۔“

یہ واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر رویا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی چلا آرہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ امیر المومنین سیدنا عمرؓ تھے اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ڈر گیا کہ اب امیر المومنین آگئے ہیں، وہ تو مجھ جیسوں کا درے سے انتظام کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی چند درے لگ جائیں۔

حضرت عمرؓ نے اسے دیکھا اور کچھ آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر دوبارہ اس کی طرف آئے۔ جب اس نے انہیں دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھا تو اور زیادہ ڈر گیا کہ یہ پھر میری طرف آرہے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جب حضرت عمرؓ اس کے پاس آئے تو انہوں نے وہ گٹھڑی اپنے سر سے اتار کر اس کے سامنے رکھی اور فرمانے لگے، ”بھائی کھانا کھاؤ۔“

وہ بوڑھا حیران ہوا کہ امیر المومنین مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، ”اے امیر المومنین! آپ میرے لئے کھانا کیسے لائے؟“ حضرت عمرؓ نے فرمایا، ”دو پہر کا وقت تھا، میں قیلولہ کر رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پریشان بیٹھا ہے، وہ بھوکا ہے، عمر! جاؤ اور میرے اس دوست کو کھانا کھلا کے آؤ، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اللہ کا دوست ہے، چنانچہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو کھانا تیار ہے وہ دے دو، اس نے کھانا باندھ دیا، میں نے کہا کہ میں اللہ کے دوست کی طرف جا رہا ہوں، لہذا کھانا ہاتھوں میں اٹھا کر نہیں بلکہ اپنے سر پر اٹھا کے لے

جاتا ہوں تاکہ اللہ کے دوست کا اکرام ہو سکے، اس لئے عمر کھانا سر پر اٹھا کر آیا ہے،
اے اللہ کے دوست کھانا کھا لو۔“

جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، اچھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب
کے سامنے توبہ کی تھی، میرا پروردگار کتنا کریم ہے کہ اس نے میرے تمام گناہوں کے
باوجود میری ندامت کو قبول کر لیا اور وقت کے امیر المؤمنین کو خواب میں حکم دیا کہ
جاؤ، میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤ، اے اللہ! تو کتنا کریم ہے۔

اس بات کو سن کر وہ بوڑھا اتار دیا کہ وہیں روتے روتے حضرت عمرؓ کے
سامنے اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی..... اللہ اکبر..... اللہ رب العزت
بڑے قدردان ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت قدردان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ
صفت عطا فرمادیں۔

دارالعلوم جھنگ..... منزل کی طرف رواں دواں

عزیز طلباء! جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کی خاطر دین کا علم
حاصل کرنے کے لئے اپنے آرام، اپنی نیند اور اپنی آسائشوں کو قربان کرتا ہے تو اس
کی یہ قربانیاں ضرور رنگ لاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور وہ بندے کی
قربانیوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ وہ وعدہ دے چکے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، میں کسی
کے کئے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ یہاں مختلف شہروں اور مختلف قبیلوں سے
طلباء آئے ہوئے ہیں، اگرچہ طلباء کی تعداد کے حساب سے جگہ کم ہے لیکن انشاء اللہ
اللہ تعالیٰ اس کو کھلا بھی کر دیں گے۔ آج آپ بیٹھنے کے لئے جگہ ڈھونڈتے ہیں،
انشاء اللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھینے کے لئے بھی جگہ عطا فرمادیں
گے۔

ادارے ایسے ہی بنتے ہیں۔ جب درخت شروع میں زمین سے نکلتا ہے تو اس

وقت میٹھوٹا سا پورا ہوتا ہے، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے چڑیا بھی چک لیتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں اور اس کی نشوونما فرماتے ہیں، جب تن آہر و رخت بن جاتا ہے تو بندے بھی اس کے ساتھ لٹکتے پھریں تو اس کو پروا ہی نہیں ہوتی۔ اورے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ادارہ (دارالعلوم جھنگ) بھی بچپن کے بعد اب لڑکپن کی زندگی گزار رہا ہے اور جوانی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو پھلتا پھولتا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

عمارت کا بنا لینا آسان ہوتا ہے لیکن اصل چیز یہ کہ متقی اور مخلص اساتذہ کی جماعت مل جائے۔ کئی مرتبہ لوگ محل کھڑا کر لیتے ہیں لیکن اس محل کا نام مدرسہ نہیں ہوتا بلکہ مدرسہ اساتذہ کی جماعت کا نام ہے۔ وہ جہاں بیٹھ جائیں وہی جگہ مدرسہ بن جاتی ہے۔ ہماری ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مدرسہ میں علمی لحاظ سے قابل سے قابل ترین استاد کو لائیں اور ان کو یہاں رہنے کے لئے جتنا اچھے سے اچھا ماحول دیا جاسکتا ہے ان کو پیش کریں تاکہ وہ بچوں کو اپنی علمی قابلیت استعمال کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پڑھائیں اور بچے ان سے علمی فائدہ اٹھائیں۔ الحمد للہ ہر سال ایک دو استاد اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور الحمد للہ کچھ طلباء بھی اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔

۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر

لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

اللہ تعالیٰ نے کچھ کارواں بنا دیا ہے آئندہ سال اللہ تعالیٰ اسے اور بڑا کر دے

گا۔ انشاء اللہ۔

ہم ایک جماعت ہیں۔ ایک ہوتی ہے بھیڑ اور ایک ہوتی ہے جماعت۔ بھیڑ

میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور جماعت میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں لوگوں کی سوچیں اپنی اپنی ہوتی ہیں اور ایک جماعت کے لوگوں کی سوچیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ چونکہ ہم ایک جماعت ہیں اسلئے ہم سب کی سوچ ایک ہی ہے اور وہ سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس کو راضی کرنے کے لئے ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں..... اس کو راضی کرنے کے لئے ہم اساتذہ کی خدمت میں وقت گزارتے ہیں..... اور اس کو راضی کرنے کے لئے ہم مشائخ کے پاس آتے ہیں..... گویا ہمارے ہر کام کا اصل مقصد رضوان من اللہ اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (الزمر: ۳)

[خبردار! دین خالص صرف اللہ کے لئے ہے]

یہ عاجز ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے کہ آپ کے لئے آرام وہ اور آسائش والی جگہ کا انتظام کیا جائے اور آپ کا کام ہے کہ شوق اور محبت سے پڑھیں اور علمی ماحول بنائیں، اخلاص کے ساتھ عمل والا ماحول بنائیں، ذکر اذکار والا ماحول بنائیں اور فسق و فجور سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور ہم سب کامیاب ہو جائیں۔

یہ عاجز بندہ جب دور بھی بیٹھا ہوتا ہے تو اساتذہ اور طلباء کے لئے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس عاجز کی زندگی کا شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو کہ جس دن تہجد میں اس مدرسہ کے اساتذہ اور طلباء کے لئے دعا نہ کرتا ہوں۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ اس عاجز کا کمال نہیں بلکہ یہ اس کمال والے کا کمال ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، نااہلوں پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمادیتا ہے۔ یہ بات تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن سے میرا ذاتی قرب بھی ہے اور

ان کو زیادہ پہچانتا بھی ہوں۔ اس عاجز نے تہجد کے اوقات میں ان کے لئے دعائیں مانگیں، اتنی دعائیں تہجد کے اوقات میں آپ کے اپنے والد نے بھی نہیں مانگی ہوں گی۔ الحمد للہ بلا تاخیر دعائیں مانگتا ہوں۔ جب دعا مانگتا ہوں تو اگرچہ نام تو نہیں لیتا لیکن ان کے چہرے میرے سامنے ہوتے ہیں۔ علماء کے ناموں اور چہروں سے تو میں ویسے ہی واقف ہوں، طلباء میں سے بھی کچھ ایسے حضرات ہیں جن کو عاجز کی دعاؤں میں سے حصہ ملتا ہے۔ اس عاجز کے پاس دینے کے لئے فقط دعا ہے اور میرے مالک کے پاس دینے کے لئے بڑے خزانے ہیں۔

تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اس سال حج کے موقع پر اللہ رب العزت نے اس عاجز کو ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگنے کی توفیق دی..... ملتزم ایک ایسی جگہ ہے جو حجرِ اسود اور بابِ کعبہ کے درمیان ہے۔ حدیثِ پاک میں آیا ہے کہ اس جگہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیثِ پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ اس جگہ سے لپٹ گیا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معائنہ کر لیا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس جگہ پر اس طرح لپٹ جاتے تھے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں کہ محدثین نے فرمایا کہ ہم میں سے جس جس نے وہاں دعائیں مانگیں ہر ایک نے تصدیق کی کہ اس جگہ پر مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوگئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حدیث کا متن صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اسی طرح ان محدثین کی تصدیق بھی تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اس جگہ پر محدثین کی مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب میں اس کتاب میں یہ حدیث مبارکہ لکھ رہا ہوں تو میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میری دعائیں بھی قبول ہوئی ہیں..... آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی قبولیت والی جگہ ہے۔

الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بھی وہاں دعا مانگنے کا شرف عطا فرمایا۔ ان میں منٹوں میں اس عاجز نے اس مرتبہ ایک ہی دعا مانگی،

”اے اللہ! جتنے لوگ اس عاجز کے ساتھ روحانی تعلق رکھتے ہیں اور جتنے بھی طلباء اور طالبات اس عاجز کے اداروں میں پڑھتے ہیں ان سب کو اپنے مقرب بندوں اور بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور قیامت تک ان اداروں میں جو لوگ بھی آکر پڑھتے رہیں گے ان کو بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے اور ہمارے اس ادارے کو عینا بشارت بھرا المقربون کا مصداق بنا دیجئے۔“

ہمارے بڑے دور بیٹھ کر ہمارے لئے دعا مانگتے تھے اور اب ہم اپنے دوست احباب کے لئے دور بیٹھے دعا مانگتے ہیں۔

دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے
میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھا لیتا ہے

اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچ کر اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمادے۔ ہم بے قدرے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قدر دان بنا دے۔ ہم نے واقعی اللہ رب العزت کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ حیران اس بات پر ہوں کہ وہ ہم بے قدروں کو بھی نعمتیں دے دیتا ہے۔ وہ بڑے حوصلے والی ذات ہے جو ہمارے عیبوں کی ستر پوشی کر دیتا ہے اور ہمارے عیبوں کے باوجود لوگوں کی زبانوں سے ہماری تعریفیں کروا رہا ہے۔ پروردگار عالم آپ سب طلباء کی محنت کو قبول فرمائے، اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بحیثیت ایک جماعت کے قبول فرما کر اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمادے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین



وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
(البينة: ٥)

اخلاص کی برکات

یہ بیان 10 جنوری 2003ء کو جامع مسجد دارالسلام ٹاؤن باغ
(جھنگ) میں ہوا۔ جس میں سینکڑوں سالکین طریقت نے
شرکت کی۔ (خطبہ جمعہ المبارک)

اقتباس

اعمال کی قبولیت میں انسان کی نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی لئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

[اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے]

نیت کے بدلنے سے انسان کے عمل کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اس لئے ہمیں اپنی نیتوں کو دیکھنے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے اور ان کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے کیونکہ نیت کے ٹھیک ہونے سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت بڑا اجر مل جاتا ہے اور نیت میں فرق آجانے سے پہاڑوں جیسے اعمال پر انسان کو کچھ اجر نہیں ملتا۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

اخلاص کی برکات

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اضْطَفَىٰ أَمَا بَعْدًا
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البينة: ۵)
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
 دین کے تین درجے

دین کے تین درجے ہیں جن کو طے کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ
 بنتا ہے

(۱) ... پہلا درجہ علم کا حاصل کرنا ہے۔ علم ایک نور ہے جس سے انسان اپنی زندگی
 گزارنے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اگر علم ہی نہ ہو تو انسان عمل کیسے کر سکتا ہے۔
 لہذا یہ ایک بنیاد ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا،

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

(علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے)

اس ایک کا یہ مطلب ہے کہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا تو ہر ایک پر لازم

ہے البتہ اس کی تفصیلات کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو علم کی تفصیلات کو بھی جانیں گے۔ ایک ایسی جماعت ہر زمانے میں ہونی چاہیے۔ رہ گئی میرے اور آپ جیسے عوام الناس کی بات تو ہمیں ضروریات دین کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ.....

..... فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے،

..... واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے اور

..... سنن کا علم حاصل کرنا سنت ہے۔

(۲)..... دوسرا درجہ علم پر عمل کرنے کا ہے کیونکہ فقط علم حاصل کرنے سے کام نہیں بنتا۔ اگر نیت علم پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی مغفرت ہو چکی ہوتی۔ اس کے پاس علم تو بہت تھا لیکن عمل میں کوتاہی کر گیا۔ جو انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا مَالًا يَغْلُمُ

[جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا]

عام طور پر شیطان طلباء کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم ابھی علم حاصل کر لو پھر بعد میں اکٹھا عمل کر لینا۔ جس نے یہ بات سوچنا شروع کر دی وہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ادھر پڑھو اور ادھر عمل کرو، یہی صحابہ کرام کا خلق تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو سال میں سورۃ بقرہ پڑھی لیکن جب سورۃ بقرہ مکمل ہوئی تو میرا عمل بھی سورۃ بقرہ کے مطابق ہو چکا تھا۔

(۳)..... تیسرا درجہ اخلاص کا ہے۔ یعنی جو عمل بھی کریں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اس لئے دل چاہتا ہے کہ اس محفل میں

اخلاص کے بارے میں بات کی جائے۔ جو انسان اس درجہ کیلئے پر قدم اٹھائے گا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اعمال کر لینا آسان ہے لیکن اس معیار کے اعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آجائیں، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لئے اللہ والے کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ وہ ساری عمر رات کو تہجد کی پابندی کے ساتھ گزارنے کے باوجود کہتے ہیں،

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

وہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے اور پھر صبح کے وقت اس پر اتنے نادم ہوتے تھے اور اتنا استغفار کرتے تھے کہ جیسے وہ ساری رات کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے تھے۔

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفْهِرُونَ ۝

(الذّٰرِيۡنَ: ۱۷/۱۸)

رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے | وہ شب بھر اللہ رب العزت کے حضور اپنی زمین نیاز جھکانے رکھے تھے اور صبح کے وقت حسرت کرتے تھے کہ ہم ایسے عمل نہ کر سکے جیسے ہمیں کرنے چاہئیں تھے۔ بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کر اپنے چہرے پر اس خوف سے ہاتھ لگا کر دیکھتے تھے کہ کہیں ہماری شکلیں تو مسخ نہیں ہو گئیں۔ آج ہم اپنے گناہوں پر اتنا خوفزدہ نہیں ہوتے جتنا ہمارے اکابر اپنی نیکیوں کے رد ہو جانے پر اللہ سے خوفزدہ ہوا کرتے تھے۔

اعمال کی قبولیت میں نیت کا دخل

اعمال کی قبولیت میں انسان کی نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی لئے نبی علیہ السلام

نے ارشاد فرمایا،

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

[اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے]

نیت کے بدلنے سے انسان کے عمل کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اس لئے ہمیں اپنی نیتوں کو دیکھنے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے اور ان کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے کیونکہ نیت کے ٹھیک ہونے سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت بڑا اجر مل جاتا ہے اور نیت میں فرق آجانے سے پہاڑوں جیسے اعمال پر انسان کو کچھ اجر نہیں ملتا۔ اس لئے نیت کا ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی مثالیں سن لیجئے۔

(۱)..... شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ دریائے جمنہ کے کنارے رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، جی دریا کے دوسرے کنارے میرا ایک کام ہے لیکن دریا کے اندر طوفان بہت ہے، جس کی وجہ سے کشتی کے ذریعے جانا مشکل ہے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا، جاؤ اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ دو کہ تجھے اس شخص کی طرف سے پیغام ہے جس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری نہیں کی اور نہ کبھی کھانا کھایا ہے، کہ تم مجھے راستہ دے دو۔ اب وہ بندہ تو یہ سن کر چلا گیا اور جا کر دریا کو وہی پیغام دیا... دریا کی طغیانی کم ہو گئی اور اس شخص نے آرام سے دریا پار کر لیا۔

ادھر بیوی صاحبہ نے بھی شوہر کی یہ بات سن لی تھی اور ماشاء اللہ سات بچے بھی تھے۔ وہ بڑی تلملائی کہ یہ عجیب ہے مجھے رسوا کر رہا ہے۔ وہ بزرگ جب اپنے گھر میں آئے تو وہ آگے غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ جو تو کھا کھا کر مونا ہو رہا ہے اس کو تو جان اور تیرا خدا لیکن یہ بتا کہ تو نے جو میرے ساتھ کبھی ملاقات نہیں کی تو یہ سات بچے کہاں سے ہو گئے۔ اس پر انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بات

سمجھائی کہ دیکھ میں نے جب بھی کھانا کھایا ہمیشہ اس نیت سے کھایا کہ اللہ رب العزت کے محبوب ﷺ نے فرمادیا کہ تیری جان کا تجھ پر حق ہے، اس لئے اپنی جان کا حق ادا کرنے کے لئے کھانا کھایا نفس کی لذت کی وجہ سے کبھی نہیں کھایا۔ اسی طرح اگرچہ میں سات بچوں کا باپ ہوں مگر بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے میرے دل میں ہمیشہ یہ نیت ہوتی تھی کہ شریعت نے مجھ پر بیوی کے حقوق عائد کئے ہیں لہذا میں اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں، میرا مقصد فقط نفس کی لذت اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہوتا تھا، اگرچہ میں نے اتنی بار اس کا حق ادا کیا مگر یہ ایسے ہی تھا جیسے میں نے اپنے لئے کیا ہی نہیں۔

(۲)..... ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ جب ان کی صحبت میں گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھیں تو وہ خاموش ہی رہتے ہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ طبعاً کم گوئے تھے لیکن جب کوئی آدمی دین کی بات چھیڑ دیتا تھا تو پھر دلائل کے انبار لگا دیتے تھے۔ پھر آپ کو چپ کرانا مشکل ہوتا تھا۔

(۳)..... یہی چیز ہمارے حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں تھی۔ وہ بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ ان کی کتاب ”عمدة الفقہ“ آج بڑے بڑے مفتی حضرات کی میز پر بھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ اگر ان کے پاس جا کر کوئی آدمی بیٹھ جاتا اور وہ خاموش رہتا تو حضرت بھی خاموش رہتے۔ حتیٰ کہ ایک یا دو گھنٹے بھی گزر جاتے تھے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنے علم کے بعد بھی انسان میں اتنی خاموشی ہو۔ البتہ جہاں کوئی سوال پوچھ لیتا تو ایسا تفصیلی جواب دیتے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید پورے اسباق کا مطالعہ ابھی کر کے آئے ہیں۔

ایک مرتبہ طلباء کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اذان جو ق کا مسئلہ پوچھ لیا۔۔۔ پہلے زمانے میں سپیکر نہیں ہوتے تھے، مسجدیں بڑی

ہوتی تھیں اور لوگ بھی زیادہ ہوتے تھے جس کی وجہ سے کافی لوگ مل کر اذان دیتے تھے۔ اسے اذان جوق کہا جاتا تھا۔ اب یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا..... حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تفصیلات اور جزئیات بتانا شروع کیں۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پورا ڈیڑھ گھنٹہ اس ایک مسئلے کی تفصیلات بتانے میں لگا دیا۔

اک ذرا چھیڑیے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے

ہم نے یہ خلق ان کی صحبت میں پایا کہ اللہ والوں کی بات کلام نہیں ہوتا بلکہ جواب ہوتا ہے۔ وہ از خود بات نہیں کرتے، حتیٰ الوسع چپ رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر از خود بات کریں گے تو پوچھا جائے کہ کیوں بولے تھے۔ اور جب کوئی بندہ کوئی بات پوچھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کا جواب دینے پر مامور ہوتے ہیں۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ تم اس کا جواب دو۔ لہذا اگر اب جواب دیں گے تو پھر اس پر مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ اجر ملے گا۔

ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ دو لفظ پڑھے نہیں ہوتے اور ٹر ٹر کرتے ہماری زبان نہیں تنھکتی ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ ہمیں ابھی اپنے نامہ اعمال کی فکر نہیں لگی ہوتی کہ کل اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات تو دو بندے کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرا سننے والا ان کو فتوے دے رہا ہوتا ہے۔ بھئی آپ مفتی کب سے بنے؟ جب آپ سے بات پوچھی نہیں گئی تو پھر درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ابھی اس کو اپنے نامہ اعمال کی فکر نہیں لگی۔ اگر فکر لگتی تو درمیان میں اس کا جواب دینا مشکل معلوم ہوتا۔

(۴)..... حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی بیعت ہونے کے لئے میرے پاس آتا ہے تو مجھے اس سے یوں ڈر لگتا ہے جیسے کسی بندے کو شیر سے ڈر لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا، کیوں؟ فرمایا، اس لئے کہ یہ داخل

سلسلہ ہوا تو آج کے بعد اس کے اعمال کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن وہ بیعت سب کو کر لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت! پہلے والے بزرگ تو بڑے استخاروں کے بعد، بڑی سوچ بچار کے بعد اور مہینوں کے انتظار کے بعد بیعت کرتے تھے اور آپ کے پاس جو آتا ہے اور جیسے آتا ہے، اسے بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ بھئی! جو آ کر بیعت کی تمنا ظاہر کرتا ہے میں اسے مؤمن بھائی سمجھ کر اس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں اور اس وقت میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کے حضور پکڑا گیا تو ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو میری بھی شفاعت کر دے گا۔

ان مثالوں سے پتہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ اعمال کا کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے۔

ریاء سے بچنا ام الوطائف ہے

اگر انسان اہل اللہ کے پاس وقت نہ گزارے تو پھر اس کے اندر ریا کاری اور دکھاوا ہوتا ہے..... دکھاوا کسے کہتے ہیں؟..... دکھاوا یہ ہے کہ بندہ عمل تو کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ وہ حیلے بہانے سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر تو بہت اچھی تھی اور آپ کے تو شاگرد بہت زیادہ ہیں تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جب میں پانچویں دفعہ حج پر گیا تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے واقعہ ہی سنا تھا تو یہ پانچ کا لفظ بولنا کیا ضروری تھا۔ مگر نفس کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ پانچ حج کیے ہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی کچھ ہے۔ گویا مخلوق سے تعریف کی توقع رکھنا اور ان سے تعریفوں پر خوش ہونا ہی ریا کاری ہے اور اس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے۔

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات ایک آدمی غلافِ کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اہل خراسان کو اپنا عمل دکھا رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ غلافِ کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اہل خراسان کو اپنا عمل کیسے دکھاتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ دعا مانگتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش، میرے وطن کے لوگ مجھے دیکھتے کہ میں کس طرح کعبہ سے لپٹ کر دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کام اللہ کے لئے نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے ہم وطنوں کو دکھانے کے لئے یہ کام کیا ہے۔ لہذا اعمالِ ریا سے خالی ہوں، یہی ام الوطائف ہے۔

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ اعمال میں ریا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے کی طرف دیکھو کہ وہ ہمارے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کی تو یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ روزے پہ روزہ رکھتے تھے اور جب باہر نکلنے لگتے تھے تو اپنا ہاتھ منہ دھو کر ہونٹوں پر گھی لگا لیتے تھے تا کہ دیکھنے والے ہونٹوں کی خشکی سے بھی نہ پہچانیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق ؓ جب کسی کو دیکھتے کہ ظاہر میں گردن جھکا کے اور بنا سنوار کے باتیں کر رہا ہے تو اس کو دورہ لگاتے اور فرماتے کہ یہ کیفیت ظاہر کرنے کی جگہ تنہائی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ جو لوگ ریا سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور اپنے اعدا راخلاص پیدا کر لیتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عاجزی آ جاتی ہے اور وہ اپنے اعمال پر نگران ہوتے ہیں۔ یہی غلص بندے کی پہچان ہوتی ہے۔

حضرت خالد بن ولید ؓ کا اخلاص

سیدنا عمر فاروق ؓ نے جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید ؓ کو خط بھیجا کہ آج سے، آپ جو امیر لشکر تھے اس پوسٹ (عہدہ) سے اتر گئے اور جو

خط لے کر آرہے ہیں یہ اس پوسٹ پر آگئے، اگر آپ میرے پاس واپس آنا چاہتے ہیں تو مدینہ آ جائیں اور اگر عام فوجی کی طرح لڑنا چاہیں تو آپ کو لڑنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس نہ آئے بلکہ ایک عام فوجی بن کر لڑنا قبول کیا۔ بعد میں کسی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت! پہلے تو آپ فوج کے کمانڈر انچیف تھے اور ایک خط کے ذریعے آپ کو ایک عام فوجی بن کر لڑنا پڑا، آپ کے لئے تو یہ بڑا مشکل ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ جب میں فوج کا امیر تھا تو اس وقت بھی میں اسی مالک کو راضی کرنا چاہتا تھا اور جب میں ایک سپاہی بن کر لڑتا تب بھی میں اسی مالک کو راضی کر رہا تھا۔

مولانا حسین احمد مدنی کا اخلاص

حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر سے واپسی پر ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ان کے قریب ایک ہندو جٹلمین بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دوران سفر اس کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے جا کر دیکھا تو بیت الخلاء بہت گندہ تھا۔ چنانچہ وہ جلد ہی واپس آ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ گئے تھے اور جلدی ہی واپس آ گئے۔ اس نے کہا، لوگ گند مچا دیتے ہیں، بیت الخلاء میں صفائی ہی نہیں کرتے، مجھے ضرورت تو تھی لیکن بیت الخلاء اتنا گندہ تھا کہ میں اس کو استعمال ہی نہیں کر سکا۔

یہ بات کر کے وہ ہندو بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ الحدیث شیخ طریقت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ٹرین کے بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اور سارے بیت الخلاء کو صاف کر دیا۔ جب صاف کرنے کے بعد واپس آ کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ میں بیت الخلاء استعمال کرنے کے لئے گیا تو ابھی تو بڑا صاف تھا۔ یہ اس لئے کہا کہ وہ استعمال کر لے۔ اب جب ہندو دوبارہ گیا تو اس نے اس کو صاف

پایا۔ اس نے اسے استعمال کیا اور واپس آ کر کہنے لگا، جی واقعی کسی نے صاف کر دیا تھا۔

لوگوں کو تجسس ہوا کہ آخر اس کو کس نے صاف کیا۔ وہاں ایک عالم اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا نام خواجہ نظام الدین تھا۔ انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غائبانہ طور پر کچھ باتیں سنی ہوئی تھیں اور وہ ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب کھود کرید کی تو پتہ چلا کہ حضرت مدنی نے بیت الخلاء صاف کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کھدر پوش فقیر کے سامنے خواجہ نظام الدین نے اپنے ہاتھ جوڑ دیئے اور کہنے لگے، جی آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے عمر بھر آپ کی غیبت کی، مجھے آپ کی عظمتوں کا پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا کہ آپ کتنے عظیم انسان ہیں کہ ایک ہندو کی خاطر آپ نے ایسا کام کیا ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے محبوب ﷺ کی سنت پر عمل کیا ہے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی آیا۔ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو کھانا دیا تو اس نے کھانا زیادہ کھا لیا۔ رات کو نبی علیہ السلام نے اس کو سونے کے لئے بستر دیا۔ پیٹ نرم ہونے کی وجہ سے قدرتنا اس کی ایسی کیفیت ہوئی کہ اسی بستر میں اس کا پاخانہ خارج ہو گیا۔ وہ صبح اسی حالت میں اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ جب وہ کچھ دور پہنچا تو اسے یاد آیا کہ وہ جلدی میں اپنا کچھ سامان وہاں بھول گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ سامان لینے کے لئے واپس آیا تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھور رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، آپ کو اللہ نے وہ خلق عطا کیے جو خلق دنیا میں کہیں کسی کے پاس نہیں ہو سکتے۔ لہذا آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ میرے آقا ﷺ نے مہمان کی خاطر

یہ عمل کیا تھا اور میں نے بھی اپنے آقا ﷺ کی سنت پر عمل کیا ہے۔ تو یہ مخلص لوگ تھے۔

حضرت عبدالملک صدیقی کا خلاص

جب ریاء دل سے نکلتی ہے تو پھر ”میں“ کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اور انسان کے اندر عاجزی بھر جایا کرتی ہے۔ پھر وہ لوگوں کی کڑوی کسلی باتیں بھی صبر کے ساتھ سن لیتا ہے..... حضرت خواجہ عبدالملک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے دین کے خزانے تو کھولے ہی تھے آخری عمر میں ان پر دنیا کے دروازے بھی کھول دیئے تھے۔ چنانچہ ان کو خوب فتوحات حاصل تھیں۔ اس کی وجہ سے ان کے بعض ہم عصر علماء کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، جی اتنی بڑی مسجد بنا دی، یہ پیسہ آگیا وہ پیسہ آگیا..... اللہ کی شان دیکھو کہ مسجد کوئی بناتا ہے اور مروڑ کسی اور کے دل میں اٹھتا ہے..... حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہی رہتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک شہر سے حضرت کے مرید ان سے ملنے کے لئے آئے۔ اس شہر کے ایک بڑے عالم تھے، وہ ان سے ملے اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، جی میں حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اچھا ان کو میرا پیغام دے دینا کہ دنیا اور آخرت دو سوکنیں ہیں، جب ایک سے نکاح کرتا ہے تو دوسری روٹھ جایا کرتی ہے..... اصل میں انہوں نے چوٹ کی تھی کہ اب آپ پر فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں لہذا اب آپ اپنے دین کی خیر منائیں۔

جب وہ صاحب حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آئے اور ان سے ملے تو حضرت نے اس کے حال احوال پوچھے اور قدرتاً یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ کے شہر کے وہ بڑے عالم کس حال میں ہیں۔ اس نے کہا، جی ٹھیک ہیں۔ پھر پوچھا کہ ان سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا، جی آتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی۔

حضرت نے پوچھا، بھیجی انہوں نے کوئی بات کہی تھی؟..... جی ہاں، یہ اللہ والے جو ایسے القلوب (دلوں کے جاسوس) ہوتے ہیں..... جب یہ پوچھا تو وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ اب حضرت صدیقیؒ کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی بات ہے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا، جو بات انہوں نے تمہیں کی تھی من و عن وہی بات تم مجھے کہو۔ اب وہ پھنس گیا۔ بہر حال اس نے بادلِ نخواستہ بتایا کہ حضرت! جب میں ان سے ملا اور بتایا کہ آپ کو ملنے جا رہا ہوں تو بڑے مسکرائے اور کہنے لگے کہ میرا پیغام دے دینا کہ دنیا اور آخرت دوسو کنیں ہیں، جب بندہ ایک سے نکاح کرتا ہے تو دوسری روٹھ جایا کرتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت صدیقیؒ نے سر جھکا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ اتنے آنسو گرے کہ آپ کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا۔

اب وہ آدمی پریشان ہوا کہ میں نے کون سی بات کر دی کہ حضرت اتنے غمزدہ ہوئے۔ جب حضرت کافی دیر روتے رہے تو پھر اس نے پوچھا، حضرت! اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرمادیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، حضرت! پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں شکر کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ الحمد للہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہمارے سیدھے رہنے کی فکر موجود ہے اور وہ ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے کہ حضرت اس کو جواب میں کیا کچھ کہہ سکتے تھے لیکن اپنی عالی ظرفی کی وجہ سے خاموش رہے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم کہتے کہ بڑے آئے بات کرنے والے۔ یہ نہیں دیکھتے وہ نہیں دیکھتے، مگر نہیں، اللہ والوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔

مولانا خیر محمد جالندھریؒ کا اخلاص

حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ حضرت اقدس تھانویؒ کے خلفاء میں سے تھے۔

ایک مرتبہ آپ درس حدیث دے رہے تھے کہ آپ کو درس کے دوران ایک جگہ پر اشکال وارد ہوا۔ کافی سوچا اور حاشیہ بھی دیکھا مگر وہ اشکال رفع نہیں ہوتا تھا۔ حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد طلباء کو بتا دیا کہ اس جگہ پر میرے دل میں یہ اشکال وارد ہوا ہے اور اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا..... کوئی ہم جیسا ہوتا تو گول ہی کر جاتا۔ جہاں سے آتا ہے پڑھا دیتے ہیں اور جہاں سے نہیں آتا اس کو ایسے پڑھا دیتے ہیں کہ دونوں میں دو مہینوں کا کورس ختم ہو جاتا ہے۔ جب طلباء پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب آگے آئے گا اور جب آگے چل کر پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب پیچھے گزر چکا ہے..... مگر وہ حضرات اخلاص والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے خود طلباء کو بتا دیا کہ میرے دل میں یہ اشکال ہو رہا ہے اور میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں آ رہا۔ طلباء سے بھی پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہو تو آپ بتا دیجیے۔ طلباء سوچتے رہے مگر ان کے ذہن میں بھی جواب نہیں آیا۔ اس وقت حضرت کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے حضرت سے ہی دورہ حدیث کیا تھا مگر چونکہ ان کی استعداد اچھی تھی اس لئے حضرت نے ان کو اپنے مدرسہ میں استاد رکھا تھا۔ وہ استاد حدیث تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کہنے لگے، اچھا میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ دل میں نہیں تھا کہ یہ بچے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شیخ الحدیث ہو کر اپنے شاگرد سے پوچھنے چلے گئے۔

جب حضرت بخاری شریف لے کر جانے لگے تو ایک طالب علم پیچھے سے جلدی سے بھاگا کہ میں ان کو جا کر اطلاع دے دوں کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کلاس میں پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے جا کر ان کو بتایا کہ حضرت آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا درس وہیں موقوف کیا اور جلدی سے باہر نکلے برآمدے میں استاد شاگرد کی ملاقات ہوئی۔ استاد نے پوچھا، مولانا! مجھے اس

جگہ اشکال وارد ہوا ہے اور کچھ بات سمجھ میں نہیں آرہی، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ہی ذرا بتادیں۔ جب شاگرد نے وہ جگہ دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جواب ڈال دیا تو انہوں نے استاد کی خدمت میں عرض کیا، حضرت! جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا تو اس وقت اس مقام پر پہنچ کر اپنے اس مسئلہ کو یوں حل کیا تھا اور آگے اس کا جواب بتا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت! میرے دل میں یہ جواب آرہا ہے۔ جب استاد ایسے تھے تو پھر شاگرد بھی ایسے ہوتے تھے۔ کاش کہ ہمیں بھی ایسا اخلاص نصیب ہو جائے۔

مخلص بندے کے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد

یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ کام انک جائے گا اور رک جائے گا مگر مخلص بندے کے کام کو اللہ تعالیٰ کبھی انک لئے نہیں دیتے، کبھی رکنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کروا دیا کرتے ہیں۔ اب ذرا چند مثالیں سن لیجئے۔

(۱)..... ایک مرتبہ سیدنا حضرت علیؓ جہاد کے دوران ایک کافر کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ آپ چاہتے تھے کہ اس کو خنجر سے ذبح کر دوں۔ اس نے سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ جیسے ہی اس مردود نے تھوکا آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اب تو انہیں ضرور ہی قتل کر دینا چاہیے تھا۔ وہ پوچھنے لگا کہ جی آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ اب نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مارنا چاہ رہا تھا، اب تم نے میری طرف جو تھوکا تو میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا اور میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا، اچھا! پہلے تو میں کفر پر مر رہا تھا اب آپ کا اخلاص مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ مجھے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دیجئے۔ اب ظاہر میں یہ نظر آرہا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ گئے

تو یہ بندے کو نہیں ماریں گے مگر اللہ تعالیٰ کام کو ادھورا نہیں رہنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کلمے کی توفیق عطا فرمادی۔

(۲)..... سیدنا عمرؓ کے زمانے میں ایک علاقے کا شہزادہ تھا۔ وہ گرفتار ہو کر پیش ہوا۔ حضرت عمرؓ چاہتے تھے کہ اس بندے کو قتل ہی کروادیں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ مصیبت بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب قتل کا حکم دے دیا تو اس نے کہا، جی کیا آپ میری آخری تمنا پوری کر سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کون سی؟ اس نے کہا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے لہذا مجھے پانی کا پیالہ پلا دیجئے۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے پانی کا پیالہ پلا دو۔ چنانچہ اسے پانی کا پیالہ دے دیا گیا۔

جب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو کانپنا شروع کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا، بھئی! آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ادھر پانی پینے لگوں گا اور ادھر جلا دمجھے قتل کر دے گا اس لئے مجھ سے پیاس نہیں جا رہا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، تو فکر نہ کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو اس نے پانی کا وہ پیالہ زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا، جی آپ قول دے چکے ہیں کہ جب تک میں پانی کا یہ پیالہ نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لہذا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، ہاں میں نے قول دیا تھا لہذا اب میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کرتا تو اس وقت وہ کہنے لگا، جی اچھا، آپ نے تو فرمادیا کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے لیکن میری بات بھی سن لیجئے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ آپ نے پوچھا، بھئی! آپ پہلے تو مسلمان نہیں بنے اب بن رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے آپ میرے قتل کا حکم دے چکے تھے، اگر میں

اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے کہ موت کے خوف سے مسلمان ہوا ہے، لہذا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا حیلہ کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے، پھر میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کروں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رضا کے لئے اسلام قبول کیا ہے..... تو مخلص بندے کا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے ہیں۔

(۳)..... ایک بادشاہ کے سو مکے شراب کے جا رہے تھے۔ ایک اللہ والے کو پتہ چلا تو ان کو غصہ آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے مکے توڑنا شروع کر دیئے۔ انہوں نے ننانوے مکے توڑ کر ایک چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے انہیں گرفتار کروا لیا۔ اس نے پوچھا، تم نے مکے کیوں توڑے؟ وہ کہنے لگے، جب مجھے پتہ چلا کہ ان مکوں میں شراب ہے تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو، اس لئے میں نے ان کو توڑ دیا۔ اس نے کہا، اچھا ننانوے مکوں میں تو غیرت کام آئی لیکن سوویں مکے میں غیرت کیوں نہ کام آئی؟ فرمانے لگے، ننانوے تک تو میں توڑنا چلا گیا، جب ننانوے کا مکا توڑ رہا تھا تو میرے دل میں خوشی کی ایک لہر پیدا ہوئی کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کر لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب تک کام اللہ کے لئے کیا تھا اور اگر اب اگلا مکا توڑوں گا تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے توڑوں گا اس لئے سوواں چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو ان کو سزا دینے کی بجائے ویسے ہی آزاد کر دیا.....

اللہ اکبر!!!

(۴)..... عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام مبارک تھا۔ وہ ایک آدمی کے غلام تھے۔ اس نے ان کو اپنے باغ کی نگرانی پر رکھا ہوا تھا۔ بعض کتابوں میں اتار کا باغ آیا ہے اور بعض میں آم کا باغ۔ بہر حال پھلوں کا باغ تھا۔ ان کو وہاں کام کرتے تین سال گزر چکے تھے۔

ایک دن باغ کا مالک وہاں آپہنچا۔ اس نے ان سے کہا، بھئی! مجھے پھل کھلاؤ۔ وہ ایک درخت سے پھل لے کر آئے۔ جب اس نے کاٹا اور کھایا تو کھٹا تھا۔ مالک نے کہا، آپ تو کھٹا پھل لے آئے ہیں۔ وہ پھر گئے اور دوسری جگہ سے پھل اتار کر لے آئے، جب کاٹا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ جب تیسری دفعہ لائے تو پھر بھی کھٹا۔ مالک بڑا ناراض ہوا۔ اس نے کہا، تمہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے تین سال گزر چکے ہیں لیکن تمہیں اب تک پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کا پھل شیریں ہے اور کس کا پھل کھٹا ہے۔ جب وہ خوب ناراض ہوا تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر کہا، جی آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لئے رکھا تھا پھل کھانے کے لئے تو نہیں رکھا تھا، میں نے تین سال میں کبھی کوئی پھل نہیں کھایا اس لیے مجھے نہیں پتہ کہ کس درخت کا پھل بیٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے۔ اس مالک کو ان کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا اور ان کو اس باغ کا مالک بھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا اور پھر وہ اپنے وقت میں عبداللہ بن مبارک بنا..... سبحان اللہ..... یہ ہوتا ہے اخلاص!!!

(۵)..... ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھالیا۔ میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپالوں لیکن میرا دل کہتا تھا، ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہو تو آ کر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو

تھا بھی ناپینا کا، اس کا کسی کو کیا پتہ چلنا تھا، چھپانے کا اچھا موقع تھا مگر میں نے وہ ہار
اسے دے دیا۔ ناپینا نے دعا دی اور چلا گیا۔

کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اللہ! میرے لئے کوئی رزق کا
بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میں وہاں سے ”ہلہ“ آ گیا۔ یہ ایک بستی کا
نام ہے۔ وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو
گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا
نماز پڑھانا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے، تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے۔ میں نے کہا،
بہت اچھا۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سرانجام دینے شروع کر دیے۔
تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک
جواں سال بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر
دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا، جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے
نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، جی بہت اچھا، چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا
نکاح کر دیا۔

شادی کے کچھ عرصہ کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی
ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک ناپینا آدمی کو لوٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں
حیران رہ گیا۔

میں نے پوچھا، یہ ہار کس کا ہے؟

اس نے کہا، یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔

میں نے کہا، آپ کے ابو کون تھے؟

اس نے کہا، وہ عالم تھے، اس مسجد میں امام تھے اور ناپینا تھے۔

تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں

نے اس کو بتایا کہ یہ ہارتو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہوگئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہوگئی۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ! ایک امین (امانت دار) شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا ہے، اے اللہ! ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لئے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ اللہ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا..... تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے، اتکنے نہیں دیتے بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔

(۶) احمد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وضو کر رہے تھے۔ وضو کرنے کے بعد جب اٹھے تو نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے نیچے گر گئے۔ جو شاگرد وضو کروا رہا تھا اس نے پوچھا، حضرت! کیا ہوا ان کی زبان سے نکل گیا، میں تین دن سے فاقے سے ہوں، اس کمزوری کی وجہ سے چکر آیا اور میں گر گیا۔ وہ شاگرد ان کو مصلے پر چھوڑ کر کھانا لینے چلا گیا۔ کھانا لا کر اس نے عرض کیا، حضرت! کھانا کھا لیجئے۔ حضرت نے فرمایا، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ فرمایا، اس لئے کہ جب میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں تین دنوں سے فاقے سے ہوں اور تم چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ تم کھانے کی کوئی چیز لے کر آؤ۔ یہ جو طمع مخلوق کے ساتھ ہے، اس کو اشرافِ نفس کہتے ہیں۔ یہ بھی ماسوا کے ساتھ طمع ہے، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا اور میں اپنی امیدیں فقط اللہ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مگر وہ شاگرد بھی اتنا ہونہار تھا کہ جب حضرت نے انکار کر دیا تو کہنے لگا، حضرت! اچھا اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو میں کھانا لے جاتا ہوں۔ وہ کھانا لے کر چلا

گیا۔ وہ پانچ دس منٹ نظر سے اوجھل رہا اور اس کے بعد پھر واپس آ گیا اور عرض کرنے لگا، حضرت! اب تو آپ کے دل سے طمع ختم ہو گئی ہے، اب میں دوبارہ کھانا لے آیا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ اب حضرت نے وہ کھانا قبول فرمایا..... پتہ چلا کہ ہمارے مشائخ ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے مطابق معاملہ فرمادیتے ہیں۔

(۷)..... طولون نامی ایک حاکم گزرا ہے۔ وہ دیندار مزاج کا آدمی تھا..... اس وقت کے حاکم دنیا دار ہونے کے باوجود دیندار بھی ہوا کرتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ ایک بچے کو لاوارث پڑا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اسکی ماں نے اس کو جتا اور اسے یہاں چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ اس نے اس بچے کا نام احمد رکھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ احمد یتیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس نے احمد یتیم کو بیٹوں کی سی محبت دی، اس کی اچھی تربیت کی اور پھر اس کو اپنا خاص مصاحب بنا دیا۔ احمد یتیم بھی بڑا دیندار، نیکو کار اور پرہیزگار نوجوان بنا۔

ارد گرد کے لوگ احمد یتیم سے بڑا حسد کیا کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ اس نے پالا ہوا ہے۔

کچھ عرصہ کے بعد طولون کی وفات ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹے ابو الجحیش کو اپنا نائب بنایا اور پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی اور یہ وصیت کی کہ بیٹا! یہ (احمد) تیرا بھائی ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، تم بھی ساری عمر اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ چنانچہ جب ابو الجحیش نے کنٹرول سنبھالا تو اس نے بھی احمد یتیم کے ساتھ اچھا تعلق رکھا۔

ایک مرتبہ ابو الجحیش کو کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ اس نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا کہ یہ چابی لیں اور فلاں راستے سے آپ میرے کمرے میں چلے جائیں اور یہ چیز

اٹھا کر لے آئیں۔ اس نے دن میں وہ راستہ کھولا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ابو لہجیش کی ایک باندی جو بڑی خوبصورت تھی اور ابو لہجیش اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا وہ اس وقت اس کمرے میں کسی خادم کے ساتھ زنا کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس باندی کو توقع ہی نہیں تھی کہ دن کے وقت بھی مرد کمرے میں واپس آ سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور یہ معاملہ دیکھا تو وہ مرد بھاگ گیا اور عورت احمد یتیم کو اپنے چکر میں پھنسانے لگی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ تم بھی میرے ساتھ وہی کرو جو وہ کر رہا تھا۔ لیکن اس کے دل میں نیکی تھی لہذا کہنے لگا، ہرگز نہیں۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَنَوَايَ ط (یوسف: ۲۳)

سبحان اللہ، نیک لوگوں کا یہی دستور رہا ہے۔ چنانچہ احمد یتیم اس بدکار عورت کے چنگل سے نکل گئے اور وہ چیز اٹھا کر اس کمرے سے واپس آ گئے۔ اب اس باندی کے دل میں یہ بات کھٹک گئی کہ اگر یہ جا کر میری شکایت لگائے گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس کا پردہ رکھا اور آ کر وہ چیز ابو لہجیش کو دے دی اور بات گول کر دی۔

ابو لہجیش نے انہی دنوں میں ایک اور نکاح کر لیا اور دوسرا نکاح کرنے کی وجہ سے پہلی بیوی کے پاس وقت گزارنے میں ذرا کمی آنے لگی۔ چونکہ وہ دل میں سوچتی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہونا ہے اس لئے اس کے دل میں یہ بات کھٹک گئی کہ احمد یتیم نے میرے خاوند کو سب کچھ بتا دیا ہے جس کی وجہ سے میرے خاوند کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی ہے۔

عورت کے دل میں جب حسد آ جائے تو پھر وہ کیا کیا مکاریاں کر گزرتی ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں کسی طرح احمد یتیم کو راستے سے ہٹاؤں۔ ایک دن ابو

الجیش اس سے ملنے کے لئے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میاں بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور پیار دے رہا ہے تو اس وقت وہ رونے لگ گئی۔ اس نے کہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں کیا بتاؤں، ایک دن احمد یتیم ہمارے کمرے میں آیا تھا، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی کوشش کی اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کے چنگل سے بچایا تھا۔

جب ابو الجیش نے یہ سنا تو اسے یاد آیا کہ ہاں میں نے ایک مرتبہ دن کے وقت احمد یتیم کو چابی دے کر بھیجا تھا اس وقت اس نے میرے حرم کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ یہ اتنا خائن شخص ہے، اس نے اسی وقت نیت کر لی کہ میں احمد یتیم کو قتل کروا دیتا ہوں۔

چنانچہ جب وہ دربار میں آیا تو اس نے اپنے خاص بندے کو بلایا اور اسے کہا کہ میں ایک آنا کو برتن دے کر آپ کی طرف بھیجوں گا اور وہ آپ کو میرا یہ پیغام دے گا کہ اس برتن کو کستوری سے بھر دو۔ آپ یہ کام کرنا کہ وہ برتن جو بندہ لے کر آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو قتل کر کے اس کا سر اس برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آنا۔

پھر اس نے احمد یتیم کو بلوایا اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے احمد یتیم کو وہ برتن دیا اور کہنے لگا کہ آپ فلاں بندے کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ وہ اسکو کستوری سے بھر کر لائے۔ احمد یتیم کو تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ برتن لے کر کچھ آگے گیا تو راستے میں اسی آدمی سے ملاقات ہو گئی جس نے باندی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس نے احمد یتیم سے وہ برتن لے لیا کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ آدمی اس خاص بندے کے پاس گیا تو اس نے اسے فوراً قتل کر دیا اور اس کا سر برتن میں ڈال کر ابو الجیش کے پاس بھجوا دیا۔ جب

ابوالحیث کے سامنے احمد یتیم کی بجائے دوسرے آدمی کا سر لایا گیا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ ابوالحیث نے احمد یتیم کو زندہ حالت میں دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو کچھ اور پلانٹک کی تھی، یہ کیا ہوا۔ احمد یتیم بھی بڑے حیران تھے کہ اس میں کستوری کی بجائے اسی خادم کا سر تھا۔

اس وقت ابوالحیث نے کہا کہ میں نے تو تمہیں مردانے کے لئے یہ کام کیا تھا۔ اب احمد یتیم کو واضح ہوا کہ اس باندی کے کہنے پر ابوالحیث نے میرے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے۔ چنانچہ اب احمد یتیم نے اس کو پوری کہانی سنائی کہ جناب! میں نے آپ کی بیوی کی پردہ پوشی کی تھی مگر اس بدکار عورت نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لئے آپ کو میرے خلاف کر دیا اور قدرتا وہی بندہ مرا جو اس کا زیادہ چاہنے والا تھا۔ جب ابوالحیث کو پتہ چلا تو اس نے باندی کو گرفتار کروا لیا۔ جب اس نے پوچھا تو اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ ابوالحیث نے اس باندی کو بھی قتل کروا دیا۔ اب ابوالحیث کی نظر میں احمد یتیم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ان کو بادشاہ بنایا جائے..... اللہ اکبر!!!..... تو دیکھئے کہ جس کے اندر اخلاص تھا اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا اور بدکردار اور خائن لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ لہذا یہ دستور ذہن میں رکھ لیں کہ مخلص بندہ جب بھی کسی کام کے لئے قدم اٹھاتا ہے اللہ رب العزت ہمیشہ اس بندے کو سرخرو فرما دیتے ہیں۔

اخلاص کی وجہ سے جوڑ پیدا ہوتا ہے۔

اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توڑی جگہ بھی جوڑ پیدا کر دیتے ہیں مثال کے طور

پر
(۱)..... حضرت خواجہ نظام الدین اولیا، رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے۔ یعنی وہ اشعار بنا کرتے تھے۔ تو الی اور چیز ہوتی ہے، اس میں تو سارے آواز ہوتے ہیں، وہ تو آج

کل گانے کو دینی رنگ دینے کا طریقہ ہے اور موسیقی سو فیصد حرام ہے۔ سماع کہتے ہیں ان اشعار کا سننا جو محبت الہی اور محبت رسول ﷺ میں ہوں۔ وہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے۔ چونکہ اس سلسلہ کے بزرگ سنتے رہے ہیں اس لئے وہ بھی سنا کرتے تھے۔

اس وقت کے محاسب اعلیٰ قاضی ضیاء الدین سنائی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ بڑے دیندار آدمی تھے۔ وہ خود بھی ظاہر شریعت پر جمے رہتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی جمائے رکھتے تھے۔ ان کو جہاں پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پر محفل ہو رہی ہے تو وہ وہاں پہنچ کر محفل برخواست کروا دیتے تھے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو دیکھتے تو خاموشی سے محفل برخواست کر دیتے تھے۔ ان بزرگوں میں ساری زندگی یہی طریقہ رہا۔ مگر زبان سے نہ تو وہ ان کے خلاف کچھ کہتے اور نہ ہی یہ ان کے خلاف کچھ کہتے۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ قاضی ضیاء الدین سنائی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ وہ بیماری ایسی تھی کہ وہ وقت ان کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء کو پتہ چلا تو وہ ان کی عیادت کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو قاضی ضیاء الدین سنائی نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء دروازے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے آکر بتا دیا۔ چونکہ ان کی طبیعت میں ذرا زیادہ سختی تھی اس لئے جب انہوں نے سنا کہ فلاں بزرگ آئے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ وہ ایک بدعت پر عمل کرتے ہیں، ایسی محفل میرے نزدیک بدعت ہے اور اب میرا مرنے کا وقت قریب ہے، ایسے وقت میں میں کسی بدعتی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جب شاگرد نے آکر بتایا کہ حضرت! وہ تو منع کر رہے ہیں کہ میرا موت کا وقت

قریب ہے اور میں اس وقت رجوع الی اللہ رکھنا چاہتا ہوں، لہذا میں کسی ایسے بندے کے ساتھ ملنا بھی نہیں چاہتا، تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ان کو جا کر کہو کہ بدعتی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لئے آیا ہے۔ جب یہ بات کہی اور قاضی ضیاء الدین سنائی نے سنی تو وہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور شاگرد سے کہا کہ میرے بستر سے لے کر میرے دروازے تک میرے اس عمامے کو بچھا دو اور ان سے کہو کہ وہ میرے عمامے پر جو توں کے ساتھ چل کے میرے پاس آجائیں..... سبحان اللہ... جب دونوں طرف اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ توڑ کی بجائے جوڑ پیدا فرما دیتے ہیں۔

(۲)..... حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تربیت میں بڑی سختی ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایک دوسرے سے بات بھی کرتا تو اس کو بھی خانقاہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ گویا وہاں پر نظم و نسق میں خوب سختی تھی..... علماء نے لکھا ہے کہ جب شیخ کی طبیعت کے اندر سختی ہو تو اس میں مریدین کی بہت ہی زیادہ عظمت ہوتی ہے۔ پھر شیخ ان کی خوب تربیت کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی سنور جاتے ہیں۔ یعنی شیخ کی سختی بھی ان کے حق میں رحمت بن جاتی ہے..... لیکن حضرت مدنی کے ہاں بڑی رحمت کا معاملہ تھا۔ جو آتا اس کو مہمان بناتے، اس کو کھانا بھی کھلاتے اور کئی مرتبہ تو اس کے پاؤں بھی دبا دیا کرتے تھے۔ ان دونوں جگہوں پر طبیعتوں میں اتنا فرق تھا۔ دونوں پھول تھے مگر

ہر گل را رنگ و بوئے دیگر است

[ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا ہوتی ہے]

ایک عالم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چند دن گزارنے کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گئے۔ وہاں چند دن شہزادوں کی طرح گزارے

تو کہنے لگے، حضرت! میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، حضرت! میں حضرت تھانویؒ کی خانقاہ سے ہو کر آیا ہوں، وہاں تو اتنی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے کہ بندے کو کس کر رکھتے ہیں اور یہاں پر اتنی محبت ملتی ہے کہ شہزادہ بنا کر رکھتے ہیں، آپ ذرا اس بات کی وضاحت فرمادیں..... اب کوئی عام بندہ ہوتا تو پتہ نہیں کہ آگے سے کیا جواب دیتا مگر وہ سنورے ہوئے لوگ تھے، لہذا دیکھیں کہ انہوں نے کیا ہی پیارا جواب دیا..... حضرت مدنیؒ نے فرمایا، دیکھو کہ وہاں پر بڑے طبیب ہیں، جراح ہیں اور سرجن ہیں، اور سرجن ہمیشہ جسم کو چیر لگاتا ہے اور پھوڑے کے اندر جو گندہ مواد ہوتا ہے وہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے تمہیں وہاں سخی محسوس ہوئی۔ میری حیثیت کپوڈر کی سی ہے اور کپوڈر یہ کام کرتا ہے کہ جب سرجن سرجری کر دیتا ہے تو وہ پھر زخموں کے اوپر فقط مرہم لگاتا ہے، چونکہ بندے کو مرہم لگانا اچھا لگتا ہے اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ پیار کا معاملہ کر رہا ہے۔..... ان کے اندر اخلاص تھا اس لئے ایسی بات کہی جو توڑ کی بجائے جوڑ پیدا کرنے والی ثابت ہوئی۔ اسی اخلاص کی وجہ سے دل جڑتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص کی یہ نعمت عطا فرمادے۔ (آمین)

ریا کار کی تین علامتیں

ہمارے اکابر نے ریا کار کی تین علامتیں لکھی ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو تول سکتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔

پہلی علامت..... خلوت میں سستی اور جلوت میں چستی۔ یعنی کہ وہ تنہائی میں عبادات کے اندر غفلت اور سستی برتتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو مختصر سی، جبکہ لوگوں کی محفل میں بڑی چستی دکھاتا ہے۔ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑا صوفی

صافی بن جاتا ہے، اس وقت وہ فقط اشراق کے نفل ہی نہیں پڑھتا بلکہ اسے پچھلی قضا نمازیں بھی یاد آ جاتی ہیں اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو فرض نمازیں پڑھنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ طلباء۔ جب تک مدرسے میں رہتے ہیں وہ بڑے اچھے معمولات کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی نھر جاتے ہیں بس گھر جاتے ہیں..... یہ اخلاص کے منافی چیز ہے..... جس طرح مدرسے میں اعمال کی پابندی کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جب گھروں میں جائیں تب بھی اسی طرح اعمال کی پابندی کریں۔ اس لئے کہ جس پروردگار کو یہاں راضی کرنا تھا اسی پروردگار کو وہاں بھی راضی کرنا ہے۔

دوسری علامت..... وہ دنیا داروں سے تعریف کی توقع رکھے۔ یعنی اس کے اندر چاہت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ دیکھیں کہ تعریف ریاکار کی بھی ہوتی ہے اور مخلص بندے کی بھی، مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ریاکار دل میں پسند کر رہا ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو اور جب مخلص بندے کی تعریف کی جائے تو اس وقت اس کا دل رو رہا ہوتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ ان کی تعریف کرتا تو ہمیشہ وہ تنہائی میں دعا کرتے، اے اللہ! آپ نے لوگوں کو میرے ساتھ جو حسن ظن عطا کر دیا اب مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنا دیجئے۔

ایک تعریف ماں باپ اور پیر استاد کی ہوتی ہے۔ یہ تعریف مستحسن ہے بلکہ مطلوب ہے۔ اگر کوئی شاگرد اس لئے اچھا پڑھے کہ استاد میری تعریف کرے تو یہ اچھی بات ہے..... کیوں؟..... اس لئے کہ وہ استاد کو اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہے اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے کا دل خوش ہوگا، یہ دعا کرے گا اور اس کی دعا پر اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کسی نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت! یہ آپ کے مریدین آپ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا تو خدا سے

بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت نے ان کو بٹھالیا۔ فرمانے لگے، بھئی! دیکھو، میں کوئی تھانیدار ہوں، وہ مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس نے کہا، جی وہ اس لئے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ خفا ہو گئے تو کہیں ان کی عاقبت ہی نہ خراب ہو جائے۔ اس پر حضرت نے فرمایا، چونکہ وہ مجھے اللہ کا دوست سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اس لئے مجھ سے ڈرنا حقیقت میں اللہ کے خوف ہی کی ایک کرن ہے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے..... اس لئے اللہ والوں کی تعریف، پیر کی تعریف، استاد کی تعریف اور ماں باپ کی تعریف اچھی ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عام طور پر دل میں مخلوق سے تعریف کی نیت ہونا، یہ برا ہے۔ اس لئے تقریر کر کے پھر کہتے ہیں..... کہہ دو سبحان اللہ..... اور سب سے اونچا اونچا کہلو اور ہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے! یوں کہو کہ بھئی اللہ کو یاد کر لو، ورنہ اتنا کچھ کر کے لوگوں کی چند دفعہ سبحان اللہ لگئی تو آپ کو تو آپ کی تقریر کا بدلہ مل گیا۔ اگر ایسا کیا تو یہاں سے فارغ ہو کے جاؤ گے اور نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا ہوگا۔ تو مخلوق سے تعریف کی طمع نہ ہو بلکہ دل میں یہ نیت ہو کہ اے میرے مولا! میں یہ کام آپ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں، بس میں آپ کی بارگاہ میں قبولیت پا جاؤں۔

تیسری علامت..... جب مخلوق میں سے کوئی آدمی دین کے کام میں اس کی ملامت کرتا ہے تو وہ دین کا کام چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ ذرا سی کوئی بات کر دے تو سنت پر عمل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شادی کے موقع پر اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ اگر یوں کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ کیا انہوں نے کبھی یہ بھی کہا ہے کہ اس موقع پر یوں کیا تو اللہ کیا کہے گا یا نبی علیہ السلام کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے بارے میں سوچ ہی نہیں آتی۔ بلکہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یوں کیا تو

ہماری ناک ہی کٹ جائے گی۔ اوبھئی! دنیا میں کیا ناک کٹے گی، جو ناک قیامت میں کٹے گی اس کو ساری مخلوق دیکھے گی۔ آج اگر دو بندوں نے بات کر بھی دی کہ انہوں نے شادی پر ڈھول باجے نہیں بجائے تو کوئی بات نہیں۔ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے! لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پروردگار کیا کہتے ہیں جن کی رضا کے لئے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکار کی ان تینوں علامتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پوری زندگی میں اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

مخلص بندے کی تعریفیں زیادہ ہوتی ہیں

ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لینا کہ ریاکار بندہ چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں لیکن یہ عاجز اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ریاکار چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اتنی تعریفیں نہیں کرواتے جتنی اس مخلص بندے کی کرواتے ہیں جس کا دل مخلوق کی طرف سے تعریف ہونے پر رو رہا ہوتا ہے۔ مزہ تو پھر اس لائن کا ہوا کہ اللہ کے ہاں اجر بھی ملا اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی زبان سے تعریفیں بھی کروا دیں۔

جتنا اخلاص اتنا اجر

ایک اصول یاد رکھئے کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ عمل چاہے کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو اخلاص کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کی نظر میں موٹا بن جایا کرتا ہے۔ آپ نے ہیرا دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے ہیرے کی قیمت لاکھوں روپوں میں ہوتی ہے..... دیکھنے میں چھوٹا اور قیمت میں موٹا..... اسی طرح اخلاص بندے کے عمل کو ہیرے کی طرح قیمتی بنا دیا کرتا ہے۔

امام ابو داؤدؒ کا اخلاص

اما ابو داؤدؒ ایک بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ایک کشتی کا سفر کر رہے تھے۔ ان کے سامنے سے ایک اور کشتی آرہی تھی۔ ان کو سفر کے دوران اس وقت چھینک آئی جب سامنے سے آنے والی کشتی بالکل قریب تھی..... جس بندے کو چھینک آئے اسے چاہیے کہ وہ الحمد لله کہے۔ اور الحمد لله کے الفاظ سننے والے کو چاہیے کہ وہ اسے کو جواب میں یرحمک الله کہے۔ اس کے بعد چھینک والا آدمی اس کے جواب میں یہدیکم الله کہے..... چنانچہ انہوں نے چھینک آنے پر الحمد لله کہا۔ ساتھ والی کشتی میں سے ایک آدمی نے ان کی زبان سے الحمد لله سنا تو اس نے جواب میں یرحمک الله کہا۔ لیکن جب حضرت ابو داؤدؒ نے جواب دینا تھا تو کشتی دور جا چکی تھی اور وہاں تک آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب حضرت کنارے پر پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے ایک اور کشتی کرائے پر لی اور ایک درہم اس کو دیا اور کشتی سے واپس آئے اور واپس آ کر اس بندے کو جس نے یرحمک الله کہا تھا اسے جواب میں یہدیکم الله کہا اور واپس آ گئے۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، ابو داؤدؒ کو مبارک دے دو کہ اس نے ایک درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی ہے..... اللہ اکبر!!!..... محدثین اللہ کی رضا کے لئے یوں اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ اس وجہ سے آج ان کا فیض جاری ہے۔ آج دنیا ان کی کتابیں پڑھ رہی ہے اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار رہی ہے اور وہ حضرات اپنی قبروں کے اندر اس کا اجر و نواب پارہے ہیں۔ تو اخلاص والے بندے کی محنت چھوٹی اور اسے اجرت موٹی ملتی ہے۔ وہ کام تو تھوڑا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بڑا پالیتا ہے۔

رضائے الہی کے متلاشی

مخلص بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو دوسروں سے اس طرح چھپاتا ہے جیسے لوگ اپنے گناہوں کو دوسروں سے چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر بھی نیک کام کر کے دوسروں سے چھپاتے ہیں اور وہ کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔

(۱)..... سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عمل یہ تھا کہ اگر کوئی سائل ان کے دروازے پر آتا تو اپنی خادمہ کے ہاتھ اس کو پیسے بھجوادیتیں اور دروازے پر آ کر خود سنتیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ خادمہ کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ اس نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے ام المؤمنین! آپ کے ایک عمل کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے در پر جب بھی کوئی سائل مانگنے آتا ہے تو آپ اس کو ہمارے ہاتھ سے دلواتی ہیں مگر پردے کے پیچھے جا کر سنتی ہیں کہ اس نے لے کر کیا کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟..... ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں جا کر سنتی ہوں کہ وہ مجھے کیا دعا دے رہا ہے، جو دعا وہ مجھے دیتا ہے میں وہی دعا اس بندے کے لئے کر دیتی ہوں تاکہ میری دعا اس کی دعا کا بدلہ بن جائے، عمل کا اجر تو میں اپنے پروردگار سے چاہتی ہوں..... سبحان اللہ..... ان کو اس بات کا کتنا خیال ہوتا تھا کہ مجھے اپنے عمل کا بدلہ اللہ رب العزت سے چاہیے۔

(۲)..... حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب مدائن کو فتح کیا تو کچھ دنوں کے بعد ایک عام مجاہد ان کے پاس آیا۔ اس نے کوئی چیز کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی۔ اس نے وہ چیز نکالی اور کہنے لگا، اے امیر! مجھ میں آپ کی خدمت میں یہ امانت دینے کے لئے آیا ہوں۔ جب حضرت نے اس کو کھولا تو وہ مدائن کے بادشاہ کا تاج تھا۔ وہ تاج سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر اتنے قیمتی ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے کہ اگر وہ مجاہد اس کو بیچ کر کھاتا تو اس کی سات نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جو بادشاہ

اس جنگ میں قتل ہوا تھا اس کے سر سے وہ تاج کہیں گرا تھا۔ وہ مٹی میں پڑا تھا اور اس مجاہد کو مل گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تاج اس کے پاس ہے۔ اس نے بھی اس کو چھپا کر رکھا۔ جب ہر چیز سیٹل ہو گئی تو اس نے لا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا۔ حضرت اس کے اخلاص پر حیران ہوئے کہ کسی کو اس تاج کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، یہ غریب سا بندہ ہے، یہ اسے اپنے پاس رکھ بھی سکتا تھا، لہذا انہوں نے اس کے اخلاص پر حیرانی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا، اے مجاہد! تیرا نام کیا ہے؟ اس سوال پر مجاہد نے اپنا رخ پھیر کر ان کی طرف اپنی پیٹھ کر دی اور کہا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لئے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ رب میرا نام جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دربار سے باہر چلا گیا۔

(۳)..... مسلمہ بن عبدالملک ایک حاکم تھا۔ ایک مرتبہ اس نے فوج کشی کی تو دشمن نے ایک قلعہ کے اندر چھپ کر پناہ لے لی۔ مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہ محاصرہ کئی دن تک رہا۔ وہ لوگ اتنی مزاحمت کر رہے تھے کہ کوئی سمیل پیدا نہیں ہو رہی تھی دشمنوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو دیوار کے اوپر چڑھ کر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم جلدی فتح کر لیں لیکن جب یہ قریب جاتے تو وہ دشمن تیروں کی ایسی بارش برساتا کہ یہ پیچھے ہٹ آتے۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک مسلمان نوجوان فوج کے ساتھ آگے گیا اور تیروں کی پروا کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ تیر اس کے جسم میں چبھتے رہے چبھتے رہے، وہ فقط اپنا سر بچاتا رہا۔ بالآخر وہ تیروں کی بارش میں سے گزر کر دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ ایسی جگہ پر بیٹھا تھا کہ جہاں تیر مارنے والوں کے تیر اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہاں سے اس نے دیوار توڑنا شروع کر دی۔ اس کو دیکھ کر

کچھ اور مسلمان نوجوان بھی آگے چلے گئے اور ان سب نے مل کر بالآخر اس دیوار میں نقب لگا دی۔ جب اس میں سے چند مسلمان نوجوان اندر داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ قلعہ فتح کر دیا۔ اب اس نوجوان کی بہادری پر پورا لشکر حیران تھا کہ اس نوجوان نے تیروں کی بارش میں جان کی پروا نہیں کی، یہ تیروں پہ تیر کھاتا رہا اور بالآخر اتنے بڑے کارنامے کا سبب بنا۔ ہر بندہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ صاحب نقب کون ہے۔

جب فتح ہو گئی تو ایک موقع پر سب لوگ اکٹھے تھے۔ اس وقت امیر لشکر نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں صاحب نقب کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے کہنے پر کھڑا ہو جائے تاکہ میں جانوں کہ وہ کون ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، امیر المؤمنین! میں بھی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے کھڑا تو کر لیا، آپ میرا نام ہرگز نہ پوچھئے گا۔ چنانچہ امیر لشکر اس کا نام نہ پوچھ سکے اور وہ پھر اسی طرح گم ہو گیا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ امیر لشکر اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتا تھا کہ وہ دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ! قیامت کے دن میرا حشر بھی اس صاحب نقب کے ساتھ فرما دیجئے گا... سبحان اللہ... وہ اتنا مخلص بندہ تھا کہ اس نے اتنا بڑا کام کر دیا اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرا نام بھی لوگوں کو معلوم ہو۔

(۳)..... چوتھی صدی ہجری میں ایک بزرگ ابو عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ انکے وقت میں حاکم نے لوگوں کے فائدے کی خاطر ایک فلاحی کام کروانا تھا لیکن اس میں بہت زیادہ پیسہ لگتا تھا جبکہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ اس نے ابو عمر مجاہد سے عرض کیا، حضرت! میں چاہتا ہوں کہ میں یہ صدقہ جار یہ کام کروں لیکن میرے پاس خزانے میں اتنا پیسہ نہیں کہ میں یہ کام کر سکوں۔ حضرت نے اس کو دولاکھ دینار

دے دیئے۔ وہ یہ رقم لے کر بہت خوش ہوا۔

اگلے دن اس نے لوگوں کو بلایا اور ان کو ترغیب دی کہ جو رقم بچتی ہے وہ بھی آپ لوگ دے دیں اور بات کرتے کرتے اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ ابو عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے دو لاکھ دینار عطا کئے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو ابو عمر مجاہد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، امیر صاحب! مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے یہ رقم آپ کو تو دے دی مگر میں اپنی والدہ سے اس کی اجازت نہیں لے سکا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے اجازت لے لوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، لہذا آپ میری رقم واپس کر دیجئے۔ اب جب اس نے اتنے لوگوں میں اپنی رقم واپس مانگی تو جو لوگ پہلے تعریفیں کر رہے تھے، اب ان سب نے اسے بری نظر سے دیکھا اور کہا کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ امیر وقت کو بھی وہ رقم واپس کرنی پڑی۔ جب امیر وقت نے رقم واپس کر دی اور انہوں نے لے لی اور سب لوگ چلے گئے تو رات کے اندھیرے میں وہ وہی رقم (دو لاکھ دینار) لے کر دوبارہ آئے اور امیر سے کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھے ذبح ہی کرنا چاہا مگر اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں نے والدہ کا بہانہ بتایا تھا، حالانکہ یہ رقم میری ہی ملکیت میں تھی، اب میں آپ کو یہ دوبارہ اللہ کے نام پر دیتا ہوں، آپ میرا نام کسی کے سامنے نہ لیجئے گا۔

(۴)..... سیدنا صدیق اکبر ؓ کا ایک عمل دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن الخطاب ؓ دربار صدیقی میں آئے۔ وہاں مدینہ منورہ کے نادار اور بے کس لوگوں کی فہرست پڑی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ..... یہ بوڑھا آدمی ہے..... یہ بوڑھی عورت ہے..... یہ بیمار ہے..... یہ لاچار ہے اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر جن جن لوگوں نے ان کی خدمت کرنے کی ذمہ داری قبول کی ان کے نام ان کے سامنے لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ؓ نے وہ ساری لسٹ پڑھی

اس میں ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اکیلی ہے اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے جو اس کے گھر میں جھاڑو دے اور اس کے لئے پانی بھر دے اور آگے جگہ خالی تھی۔ یعنی کسی نے اس عورت کی خدمت کے لئے نام نہیں لکھوایا تھا۔ لہذا حضرت عمرؓ نے ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کا نام نوٹ کر لیا کہ اس کا یہ کام میں کر دیا کروں گا۔

چنانچہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمرؓ اس بڑھیا کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہا، اماں! میں آپ کی خدمت کے لئے آیا ہوں۔ اماں نے کہا، میری خدمت تو ہو چکی ہے۔ ایک جھاڑو دینا ہوتا ہے اور ایک باہر سے پانی بھر کے لانا ہوتا ہے اور باقی کام میں خود کر لیتی ہوں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا، اماں! یہ کام کرنے کے لئے کون آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اسے پہچانتی نہیں کیونکہ میں نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس نے کبھی اپنا نام بتایا ہی نہیں، وہ آ کر کہتا ہے کہ خدمت والا آ گیا ہے لہذا میں پردہ کر لیتی ہوں اور وہ دونوں کام کر کے چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب پردہ ختم ہو گیا ہے، لہذا پھر میں باہر آ جاتی ہوں۔ وہ اتنے عرصے سے خدمت کر رہا ہے لیکن نہ تو میں نے اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ ہی میں اس کا نام جانتی ہوں۔ حضرت عمرؓ اس کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے۔

اگلے دن انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اماں! میں خدمت کے لئے آ گیا ہوں۔ اماں نے کہا، خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے جا چکا ہے۔ وہ بھی عمر ابن الخطابؓ تھے، چنانچہ انہوں نے اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور اس بڑھیا کے گھر کے راستے پر چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ مرد خدا کون ہے۔

جب رات گہری ہو گئی اور لوگ میٹھی نیند سو گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے گھر کے قریب آیا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز آئی ”میں ابو بکر ہوں“۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، اے امیر المؤمنین! آپ اس وقت اکیلے یہاں کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے، ہاں اس بڑھیا کی خدمت میں نے اپنے ذمے لی تھی اس لئے یہاں آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر المؤمنین جو توں کے بغیر چل کے آ رہے ہیں تو پوچھا، اے امیر المؤمنین! آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں نے جوتے گھرا تار دیئے اور ننگے پاؤں اس لئے آ رہا ہوں کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے..... سبحان اللہ... یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے جنت کی بشارتیں بائی تھیں، اس کے باوجود وہ اپنے اعمال کو اس طرح چھپ کر اللہ کی رضا کے لئے کیا کرتے تھے۔ آج اس کسوٹی پر اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمیں اپنا نامہ اہمال خالی نظر آتا ہے۔

اخلاص کی چیکنگ

اس خلوص کو چیک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں..... جیسے دنیا کے اندر چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ بندے جا رہے ہوتے ہیں تو آگے سے انتظامیہ کے آدمی انہیں روک لیتے ہیں۔ وہ ان کو بھی چیک کرتے ہیں اور ان کی گاڑی کو بھی چیک کرتے ہیں۔ پھر وہ آگے جاتے ہیں اور پھر ایک اور چیک پوسٹ آ جاتی ہے۔ وہاں بھی چیکنگ ہوتی ہے..... اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بندے کے اخلاص کو چیک کرنے کے لئے سات چیک پوسٹیں ہیں۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے عمل کو لے کر آسمان پر جاتا ہے۔

وہ پہلے آسمان کا دروازہ بند پاتا ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اس دروازے پر متعین فرشتہ پوچھتا ہے، کون ہو اور کیوں اور پر جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے عمل کیا ہے، میں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، مجھے عمل چیک کرواؤ۔ وہ فرشتہ دیکھتا ہے کہ اس نے یہ عمل اللہ کے لئے کیا ہے یا کسی مخلوق کے لئے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے لئے عمل کیا ہے تو وہ اس کو اوپر جانے دیتا ہے اور اگر اللہ کے لئے نہ کیا ہو تو اسے واپس بھیج دیتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان پر چیک پوسٹ آتی ہے۔ وہاں بھی فرشتہ چیک کرتا ہے..... پھر تیسرے آسمان پر..... پھر چوتھے آسمان پر..... حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں پر فرشتے اس کے خلوص کو چیک کرتے ہیں، بالآخر جب وہ عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی اس عمل کو چیک کرتے ہیں، اگر سو فیصد اللہ کی رضا کے لئے عمل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں اور اگر ایک فیصد بھی غیر کی طرف توجہ تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے عمل کو بندے کے منہ پر مار دیتے ہیں۔

اسی لئے فرمایا

النَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ.

انسان سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علم والوں کے،

وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ

اہل علم سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے،

وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ

عمل کرنے والے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے مخلصین کے،

وَالْمُخْلِصُونَ عَلَىٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ

اور مخلص لوگ بھی بڑے خطرے میں ہیں۔

اب سوچئے کہ اس اخلاص کے بارے میں ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔
 آج دنیا نے کارخانوں کے اندر کوالٹی کنٹرول ڈیپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں۔
 مالک کہتا ہے کہ میرا گا ہک مجھ سے کوالٹی مانگتا ہے لہذا میری ہر چیز کوالٹی کے مطابق
 ہونی چاہیے۔ اگر کوالٹی کے مطابق نہ ہو تو اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح
 اللہ تعالیٰ کے ہاں عملوں کے لئے کوالٹی کنٹرول ڈیپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اور ہر عمل کے
 خلوص کو چیک کیا جاتا ہے۔ جو عمل اس معیار پر پورا اترتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما
 لیتے ہیں اور جو معیار پر پورا نہیں اترتا اس کو اللہ تعالیٰ رد فرما دیتے ہیں۔ جس گا ہک
 نے ایک چیز کے بدلے میں چار ککے دینے ہوں وہ تو کوالٹی مانگے اور جس پروردگار
 نے..... اپنی جنتیں دیں ہوں..... اپنی رضا دینی ہو..... اپنی لقاء دینی ہو..... وہ
 بندے کے عملوں میں خلوص کو کیوں نہیں مانگے گا۔ اس لئے ہمیں یہ اخلاص اپنے اندر
 پیدا کرنے کے لئے فکر مند ہونا چاہیے۔ ایک غم لگا ہوا ہو کہ اے اللہ! میرا ہر عمل آپ
 کی رضا کے لئے ہو اور مخلوق سے میری نگاہیں ہٹ جائیں۔

مخلص کی پہچان

ایک مرتبہ فقیر ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت! مخلص
 کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے چرواہے کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، جی
 ہاں۔ فرمایا، جب چرواہا بکریوں کے درمیان نماز کے لئے بیٹھتا ہے تو کیا اس کے
 دل میں یہ طمع ہوتی ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ اس نے کہا، نہیں، اس کو تو
 ذرا بھی توقع نہیں ہوتی کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ حضرت نے فرمایا، جس
 طرح چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اس کے دل میں بکریوں
 سے تعریف کی طمع نہیں ہوتی اسی طرح مخلص بندہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ
 کی عبادت کرتا ہے تو اسے بھی لوگوں سے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ یہ میری تعریفیں

کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اخلاص عطا فرمادے۔ (آمین)

اللہ کا در اور اللہ کا ڈر

دو لفظ یاد رکھئے..... ایک اللہ کا در اور ایک اللہ کا ڈر..... ان دو چیزوں کو زندگی بھر نہیں چھوڑنا۔ نہ تو اللہ کے در کو یعنی دروازے کو چھوڑنا ہے اور نہ ہی اللہ کے ڈر کو چھوڑنا ہے۔ کبھی غڈ نہیں ہونا۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ..... میں نے بڑی تہجد پڑھ لی..... بڑے ذکر مراقبے کر لئے..... میں نے لا الہ کی بڑی ضربیں لگائیں۔ کبھی بے خوف نہیں ہونا۔ ساری زندگی دل میں ڈر رہے کہ پتہ نہیں کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا۔ اگر ساری زندگی یہ دو نعمتیں ساتھ رہیں گی تو سمجھ لینا کہ ہم محفوظ ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر قدم اٹھا رہے ہیں۔

ہر عمل کی قیمت ہوتی ہے

ہر عمل کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر دل میں بات ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں اور لوگوں نے اچھا کہہ دیا تو عمل کی قیمت مل گئی۔ اگر دل میں یہ ہو کہ لوگ میری تعریفیں کریں اور لوگوں نے تعریفیں کر دیں تو عمل کی قیمت مل گئی۔ قیامت کے دن ایک عالم کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا، اے اللہ! میں نے بڑی مسجدیں بنائیں، بڑے مدرسے بنائے اور دین کا بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں اس لئے کرتے تھے کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، فقد قیل، وہ تو کہا جا چکا ہے، اب ہمارے پاس تیرے لئے کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس بندے کو اوندھے منہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ میرے دوستو! اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں کیا کسی بندے کے ایک فقرے کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر اس لئے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری بربادی میں

کوئی شک نہیں۔ اس بندے کو قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی جس کے اتنے بڑے بڑے اعمال پیش ہوں گے مگر کہہ دیا جائے گا کہ اس کو اس کا بدلہ دنیا کے اندر دیا جا چکا ہے۔ لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن کیا بنے گا۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لئے یہ اعمال نہ جوڑے تو کل قیامت کے دن ہمارے لئے بڑی مشکل بنے گی۔

من ترا حاجی بگویم تو مرا قاضی بگو

بچی بات عرض کر دوں کہ جب میں اکابر کے اخلاص میں اس معیار کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ نہ میں پیر بننے کے قابل ہوں نہ آپ مرید بننے کے قابل ہیں۔ ہماری حالت ان لوگوں کی سی ہے جو سارے رسوا ہو گئے تھے اور وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے،

”من ترا حاجی بگویم تو مرا قاضی بگو“

آپ کو میں سالک کہہ دیتا ہوں اور آپ مجھے پیر کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں ہمارا کیا بنے گا۔ آج وقت ہے ہم اپنے اللہ سے معافیاں مانگ لیں۔ یا اللہ! اگر ہمارے کسی عمل سے ریا کاری ہوئی ہو تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اے پروردگار! ہم آپ کو راضی کرنے کے لئے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، میرے مولا! قیامت کی مفلسی سے بچالینا، قیامت کے دن کی غریبی سے بچالینا اور قیامت کے دن کی حسرت سے بچالینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

واخر دعوتنا ان الحمد لله رب العلمین



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا
(التحریم: ۸)

توبۃ نصوح

یہ بیان 27 فروری 2004ء بروز جمعہ المبارک بعد از نماز
مغرب جامع مسجد اسامہ بن زید ٹیچو مارکیٹ اسلام آباد میں
ہوا، حاضرین میں علمائے کرام اور طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔

اقتباس

شیطان انسان کی نگاہوں میں گناہوں کو ہلکا کر کے
پیش کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک بڑا دار ہے۔ وہ گناہ کے
بارے میں دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ
..... یہ گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں

..... یہ تو ہو ہی جاتا ہے

..... اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے

... آج کل تو بے پردگی بہت عام ہے، اس لئے

نگاہوں کو بچانا تو بہت مشکل ہے۔

شیطان انسان کی نگاہوں میں ان گناہوں کو اس
لئے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ وہ کرتا ہی رہے۔ اسی
لئے فاسق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی کبھی بیٹھی تھی اور
اس کو اڑا دیا۔ جب کہ مؤمن بندہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے
جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔

(حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

توبہ نصوح

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، أَمَا بَعْدُ!
 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ۝ (التَّحْرِيم: ۸)
 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ.....

إِنْ تَجَعَّبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ لُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَتَدْخُلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ۝ (النساء: ۳۱)
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.
 اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا یا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 مبارک سنت کے خلاف کرنا یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ ہمیں
 پروردگار عالم نے گناہ سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔

گناہ کی تاثیر

ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو
 اس سے عداوت ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دو باتیں لو ہے پر لکیر کی مانند ہیں۔ گناہ

سے انسان ندامت پاتا ہے اور تنگی سے انسان سلامت پاتا ہے۔ اگر ایک انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے، اسے کوئی سمجھانے والا یا منع کرنے والا نہ ہو، گویا گناہ کے تمام اسباب مہیا ہوں اور وہ من مرضی سے گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس شخص کے لئے دنیا و آخرت کی ندامت کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں بچھو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس لئے کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہر حال اس میں ندامت ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ کے نزدیک گناہ انگارے کی مانند ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہاتھ لگانے سے ہاتھ کو جلاتا ہے۔ بلکہ اگر چھوٹے انگارے سے غفلت برتی جائے تو بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے۔

كُلُّ مَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ كَبِيرَةٌ

[ہر وہ کام جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے]

توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟

توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟

مفسرین نے لکھا ہے:

تَنْزِيَهُ الذَّنْبِ عَنِ الْقَلْبِ

[دل سے گناہ کو مٹا دینا]

یعنی دل سے گناہ کی نیت ہی ختم کر دینا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ انسان دل سے گناہ کا ارادہ بھی چھوڑ دے۔ کتنے ہی لوگ اس لئے گناہ نہیں

کرتے کہ ان کو گناہ کا موقع نہیں ملتا۔ اگر موقع مل جائے تو شاید کبھی گزریں۔
 حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ تم گناہ سے توبہ
 کرنے کے بعد گناہ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگو جس قدر تم کو اس سے پہلے اس گناہ
 کی رغبت تھی اور جب گناہ کا خیال آئے تو اس سے پار گناہ خداوندی میں استغفار کرو۔
 تفسیر مظہری میں ہے کہ توبہ نصوح چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ زبان سے
 استغفار، اعضائے بدن کو گناہوں سے روکنا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ذل سے عہد کرنا
 اور برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔ گویا توبہ نصوح ایسی توبہ کو کہتے ہیں جس کے بعد دل
 میں بھی گناہ کرنے کا ارادہ نہ رہے اور توبہ کرتے وقت دل میں مکمل ارادہ ہو کہ آج
 کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔

گناہوں کو ہلکا اور مزین کر کے پیش کرنا

شیطان انسان کی نگاہوں میں گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک
 بڑا وار ہے۔ وہ گناہ کے بارے میں دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ
 یہ گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں

..... یہ تو ہو ہی جاتا ہے

..... اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے

..... آج کل تو بے پردگی بہت عام ہے، اس لئے نگاہوں کو بچانا تو بہت مشکل

ہے۔

شیطان انسان کی نگاہوں میں ان گناہوں کو اس لئے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے
 تاکہ وہ کرتا ہی رہے۔ اسی لئے فاسق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی میٹھی تھی اور
 اس کو اڑا دیا۔ جب کہ مومن بندہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا
 گیا ہو۔

بلکہ کئی مرتبہ تو شیطان گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:
 وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَرَنَاءَ فَرَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ
 عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
 إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ (حم السجدة: ۲۵)

[اور لگا دیئے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے ان کی
 آنکھوں میں خوبصورت بنا دیا اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے
 ہے۔ اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے
 ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے، بے شک وہ تھے خسارہ پانے والے]

چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھئے

یہاں پر آ کر سالک کو احتیاط ضروری ہے کہ وہ حکمِ خدا کو حکمِ خدا سمجھے اور وہ
 اپنے دل میں عظمتِ الہی اتنی بٹھائے کہ حکمِ خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال
 ہی پیدا نہ ہو۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ

لَا تَخْفِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصْنِ

[تم چھوٹے گناہ کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھو اس لئے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے
 چھوٹے پتھروں سے مل کر بنتے ہیں]

اس لئے جب انسان گناہِ صغیرہ پر اصرار کرتا رہتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کبیرہ
 بن جاتا ہے۔ صحابہ کرامؓ کے اندر ایک قول بہت مشہور تھا۔ اکثر صحابہ گفتگو کے دوران
 وہ قول ایک دوسرے کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اس قول کا مفہوم یہ بنتا ہے:

لَا صَغِيرَةً مَعَ الْأَصْوَارِ وَلَا كَبِيرَةً مَعَ الْأَسْتَفْهَارِ

”اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا“

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَنَحْسَبُونَ أَنَّهُ حِينَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. (النور: ۱۵)

[اور تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے]

مقامِ عبرت

بنی اسرائیل میں ایک راہب تھے۔ ان کا نام داموس تھا۔ ان کے علاقے میں خشک پہاڑ تھے۔ ان پر سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کی نظر پہاڑ پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں آبشاریں ہوتیں، مرغزاریں ہوتیں، درخت ہوتے تو کتنا اچھا منظر دکھائی دیتا۔ اب اگرچہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچتی تھی، مگر جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ آ جاتی ہے، لہذا ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب ہوا اور دل میں یہ بات القاء ہوئی:

”اب تم نے بندگی چھوڑ دی اور ہمارے مشیر بن گئے، اب تمہیں ہماری تخلیق میں نقص نظر آتا ہے۔“

بس اس بات کے دل میں القاء ہونے پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو آدابِ بندگی کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا..... یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے..... اچھا، غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے یہ نیت کر لی کہ جب تک مجھے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ نہیں مل جائے گا کہ میری غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ ہی پیوں گا اور یوں اپنے نفس کو سزا دوں گا۔

ایک مرتبہ بستی والوں کے ہاں کوئی تقریب تھی۔ حضرت داموس بھی وہاں پہنچے

گئے۔ کسی نے کہا، جی کھانے کے لئے تشریف لائیے۔ انہوں نے فرمایا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا، جی رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا، روزے کی بات نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوڑھے کی مانند ہوتے ہیں اور وہ چمٹ جاتے ہیں۔ وہ اگلے بندے کی مجبوری کو سمجھنے کی بجائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ان میں سے کچھ بندوں نے کہا، نہیں حضرت! آپ ضرور تشریف لائیں۔ اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ بالآخر ان میں سے کسی ایک نے کہا، جی! آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے کھانا پینا بند کیوں کیا ہے؟ اب انہوں نے صاف صاف بات بتادی اور کہا کہ میں نے اسی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ عوام الناس تھے، وہ اس بات کو کیسے سمجھتے۔ لہذا وہ ہنس کر کہنے لگے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے۔ حتیٰ کہ ان سب نے مل کر کہا، جناب! آپ کے اس گناہ پر جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کر تقسیم کر لیں گے، آپ کھانا کھائیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے تو داموس کے دل میں فوراً الہام ہوا کہ اے میرے پیارے! یہ لوگ عذاب کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں لہذا آپ اس بستی کو فوراً چھوڑ دیجئے۔ ان سب کو ابھی ہلاک کر دیا جائے گا..... اللہ اکبر..... یوں بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ پروردگار کی پکڑ پھر کیسے ہوتی ہے۔

خطرے کی بات

جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی

ہے۔ بلکہ مشائخ نے کہا کہ جس گناہ کو لوگ ہلکا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔

☆..... ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے دوست! یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا

بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو سامنے رکھنا جس کی تمنا فرمائی کر رہے ہو۔

☆..... ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں القاء

فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ یہ گناہ کرتے وقت باقی مخلوق سے پردہ کر لیتے ہیں اور ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے۔ لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں۔

☆..... اکمال العظیم میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے عدل و انصاف سے ڈبھٹ ہوئی تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں۔ لہذا میرے دوستو! اگر اللہ رب العزت فضل فرمادیں تو پھر چاہے جس گناہ کو معاف فرمادے لیکن اگر عدل فرمائیں گے تو پھر معاملہ مشکل بن جائے گا۔

بے وفائی نہ کیا کرو

ایک بزرگ اپنے سالکین کو بار بار فرمایا کرتے تھے کہ جفا نہ کیا کرو۔ جفا کہتے ہیں بے وفائی کو۔ کسی سالک نے پوچھا، حضرت! بے وفائی سے کیا مراد ہے؟ وہ فرمانے لگے، بے وفائی تین طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے بے وفائی، مخلوق سے بے وفائی اور اپنے آپ سے بے وفائی۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اب وہی ہمیں رزق اور باقی نعمتیں دیتا ہے۔ اگر ہم اسی کا دیا ہوا کھا کر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک بنائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہوگی..... پھر فرمایا کہ لوگوں کو ایذا پہنچانا مخلوق کے ساتھ بے وفائی ہے، اس لئے مخلوق کا دل نہیں دکھانا چاہیے..... پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنا اور گناہ کرنا، یہ اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی ہے اس لئے کہ اس طرح انسان اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے قابل بنا لیتا ہے۔

عالمِ مثال میں انسانوں کی شکلیں

چئی بات تو یہ ہے کہ اگر گناہوں کے اندر بد بو ہوتی تو ہم کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت کی ستاری ہے کہ اس کے صدقے ہم آج عزتوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لئے ایک بزرگ فرماتے تھے، اے دوست! جس نے تیری تعریف کی اس نے درحقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے... یقیناً اگر وہ حقیقت کھول دیتا ہے تو ہم چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہ ہوتے۔ انسان کی ایک تو ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک شکل عالمِ مثال میں ہوتی ہے۔ بندہ جس طرح کے اعمال کرتا ہے ویسی ہی اس کی شکل ہوتی ہے۔ اگر جانوروں والے اعمال کرتا ہے تو اس کی شکل جانوروں جیسی ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر:

.... جس میں حرص زیادہ ہوتی ہے اس کی شکل عالمِ مثال میں کتے کی مانند ہوتی ہے اس لئے کہ کتا حرص ہوتا ہے۔

.... جس میں بے حیائی زیادہ ہوتی ہے اس کی شکل خنزیر کی مانند ہوتی ہے کیونکہ خنزیر میں بے شرمی اور بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

.... جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ایذا پہنچاتا ہو اور دل دکھاتا ہو، اس کی مثال بچھو کی مانند ہوتی ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور ان کے جانشین تھے۔ وہ خود بھی بڑے محدث تھے اور ان کے شاگرد بھی وقت کے اکابرین میں سے بنے۔ اللہ رب العزت نے ان سے دین کا بہت زیادہ کام لیا۔ ایک وقت تھا جب پاک و ہند میں ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مدرسہ اور گھر تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد

بنائی ہوئی تھی جسے ”مسجد بیت“ کہتے ہیں۔ تعلیم و تعلم کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اکثر نمازیں وہیں پڑھا کرتے تھے البتہ جمعہ المبارک کی نماز جامع مسجد میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ ان کے مریدین ان کی زیارت کے لئے تڑپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ان کا چہرہ ایسا منور تھا کہ لوگ دیکھنے کو ترسا کرتے تھے۔ عام دنوں میں ان کی تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے ان سے ملاقات نہ ہو سکتی تھی۔ البتہ جب وہ جمعہ کی نماز کے لئے جاتے تو اس وقت لوگ راستوں میں کھڑے ہو کر ان کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ان کے خادم کا نام فصیح الدین تھا۔ وہ حضرت کو جمعہ پڑھانے کے لئے لے جایا کرتا تھا۔

پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت شاہ صاحب جمعہ پڑھنے بازار جاتے تو بازار سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر گھونگھٹ کی طرح رومال ڈال لیتے۔ اب دیکھنے والوں کو چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب لوگ ان کے خادم سے کہتے کہ جی ہم تو دیدار سے بھی محروم ہو جاتے ہیں..... خادم اگر پرانے ہوں تو پھر بعض اوقات بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے..... چنانچہ ایک دن فصیح الدین نے موقع پا کر عرض کیا، حضرت! سارا ہفتہ تو لوگ ویسے ہی انتظار میں رہتے ہیں اور جب آپ جمعہ کے لئے جاتے ہیں تو چہرے پر رومال ڈال کر ان کو دیدار سے محروم کر دیتے ہیں۔ حضرت بھی چل رہے تھے اور وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب اس نے بات کی تو شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنا رومال اتار کر فصیح الدین کے سر پر رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ غش کھا کر گر پڑا۔ لوگوں نے اس کو زمین سے اٹھایا اور جب ہوش آیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی شاہ صاحب نے اپنا رومال میرے سر پر ڈالا تو مجھے بھرے بازار کے اندر اتارنا تو تھوڑے نظر آئے لیکن کتے، بلبے اور خنزیر زیادہ چلتے نظر آئے۔ ان کی اندر کی شکلیں

اس کو شرف کی صورت میں نظر آگئیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس پروردگار نے گناہوں میں بدیونئیں بنائی جس کی وجہ سے ہم آج آرام سے محفلوں میں بیٹھ کر زندگی گزارتے ہیں۔

جاہل اور اجہل میں فرق

دنیا کی معمولی سی لذتوں یا چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر گناہوں کا مرتکب ہو جانا بہت نقصان کی بات ہے۔ عام طور پر بندہ یا تو لذت کی خاطر گناہ کرتا ہے یا ضرورت کی خاطر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ ایک دفعہ وہ حضرت عمرؓ کی محفل میں بیٹھے تھے۔ حضرتؓ نے ان سے پوچھا، بتاؤ، جاہل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت! جو بندہ اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے، اسے جاہل کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اجہل (اس سے بھی بڑا جاہل) کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی حضرت، ضرور بتائیے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، جو انسان دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے اسے اجہل کہتے ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ کی فصاحت و بلاغت

حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

[مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں

ہوں]

یعنی وہ نہ تو کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائے اور نہ ہی ہاتھ سے۔ عام طور پر تکلیف تو ہاتھ سے پہنچائی جاتی ہے لیکن یہاں یَد کے ساتھ لِسَان کا بھی تذکرہ ہے۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ لسان کو بند پر مقدم کیا گیا ہے۔ شارحین حدیث نے یہاں عجیب نکات لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے۔ لسان کو بند پر مقدم کرنے میں بڑی گہرائی اور عمق موجود ہے۔ اس لئے کہ

☆..... اگر انسان کسی کو تلوار سے زخم لگائے تو وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے لیکن جو زخم زبان سے دل پر لگایا جاتا ہے وہ کبھی مندمل نہیں ہوا کرتا۔

☆..... ہاتھ سے تکلیف پہنچانی مشکل ہے اور زبان سے پہنچانی آسان ہے۔

☆..... ہاتھ سے انسان فقط حاضرین کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ گزرے ہوؤں کو اور نہ ہی آنے والوں کو، مگر زبان ایسی شے ہے کہ اگر انسان اس سے حملہ کرے تو گزرے ہوؤں اور آنے والوں سب کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گزرے ہوؤں پر طعن کرتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔

گناہوں سے بچنے کا مقام

ہمارے اس سلوک میں لمبی چوڑی نیکیوں اور نفلی عبادتوں کا اتنا مقام نہیں جتنا مقام گناہوں سے بچنے کا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ دو بندے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی تو دن رات تسبیح کا کسی بنا ہوا ہے، لمبی نقلیں، لمبی عبادتیں اور ذکر اذکار اور پتہ نہیں کیا کچھ نیکیاں کر رہا ہے، مگر ساتھ ہی گناہوں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ نہ آنکھ قابو میں آتی ہے اور نہ زبان قابو میں۔ گویا اگر نیکیاں زیادہ کر رہا ہے تو گناہ بھی زیادہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک دوسرا سالک ہے جو لمبے چوڑے درد و ظیفے تو نہیں کرتا مگر کم از کم گناہوں سے بچتا ہے۔ وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں، دل و دماغ اور میرے جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی

گناہ سرزد نہ ہو۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والا اس لمبے چوڑے وظیفے کرنے والے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیونکہ لمبے چوڑے درد وظیفے کرنے والا ”اوپر سے لا الہ، اندر سے کالی بلا“ کا مصداق بن چکا ہوتا ہے۔

علم اور ارادے سے گناہ چھوڑنے کا انعام

گناہوں کے ترک کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب زیادہ جلدی نصیب ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھئے کہ جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اسے صدیقین میں شامل فرما دیتے ہیں۔ ایسے گناہ جو بے علمی میں ہو جائیں یا بلا ارادہ کے ہو جائیں، وہ بہت جلدی معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ نقصان وہ گناہ وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ تاہم جیسے ہی گناہ سرزد ہو تو بہ میں دیر نہ کی جائے۔ اس لئے جب کوئی مؤمن گناہ کرتا ہے تو وہ غفلت کی وجہ سے کرتا ہے اور اس وقت اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہوتا ہے۔

گناہ سے نفرت ایمان کا اثر

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَسُكْرَةَ الْيَكْمِ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ (الحجرات: ۷)

[اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر، گناہ، برتا فرمانی کی]

تو جتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا اتنی ہی فسق و فجور سے کراہت بڑھتی جائے گی۔ اگر گناہ کر بیٹھے گا تو اس لئے کہ اس وقت اس کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ گیا ہو گا۔ اس لئے مؤمن جب غلبہ حال کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے تو کرنے کے بعد اس

کے دل کو بڑا دکھ اور ندامت ہوتی ہے، پھر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ اوہو! میں کیا کر بیٹھا۔ گناہ کرنے سے پہلے غفلت کا پردہ تھا اور کرتے ہی اپنی اصلیت سامنے آ جاتی ہے اور وہ افسوس کرتا ہے کہ مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یاد رکھیں کہ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرنا اور دل کے اندر بوجھ اور بے قراری محسوس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کے اندر ایمان سلامت ہے۔ ایک رانا کا قول ہے کہ نیکی تو ہر کس و ناکس کر لیتا ہے، جو امر و تو وہ ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اور جو آدمی من چاہی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ایام کو گناہوں سے خالی کر لے۔ اس کے لئے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ وہ اس کوشش کے باوجود گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ پھر جب روزانہ بچنے کی کوشش کرتا رہے گا تو پہلے کی نسبت دن میں کم گناہ کرے گا۔ پھر اگلے دن اس سے بھی کم گناہ کرے گا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا پورا دن گناہوں کے بغیر گزر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگلا دن گزرتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرما کر ایسی زندگی عطا کر دیتے ہیں کہ انسان گناہوں کی دلدل سے بچ نکلتا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ اس امت میں ایسے صدیقین گزرے ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو بیس بیس سال تک گناہ لکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ ہمارے دل کی بھی ایک تڑپ اور تمنا ہونی چاہیے کہ اے مالک! ہمیں بھی ایسی سچی اور سچی زندگی نصیب فرما دے۔ (آمین)

ترکِ معصیت اعمال طاعات پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ذہن میں بٹھانا تھا کہ ترکِ معصیت پر محنت زیادہ کریں، اس لئے کہ یہ اعمال طاعات پر فضیلت رکھتی ہے۔

گناہ سے بھی بری چار باتیں

گناہ بہت برا ہوتا ہے لیکن چار باتیں گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں۔

۱..... گناہ کو ہلکا سمجھنا: اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہ

کو گناہ تو سمجھے۔ اس گناہ کو ہلکا سمجھنا، گناہ سے بھی زیادہ برا کام ہے۔

۲..... گناہ کر کے خوش ہونا: جیسے عورتیں کہتی ہیں، دیکھا میں نے اسے جلانے

کے لئے یہ بات کی۔ اب وہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے جلانے کے لئے یعنی

اس کے دل کو دکھ پہنچانے کے لئے یہ بات کی ہے، تو یہ گناہ پر خوش ہونے والی بات

ہے۔ یا اگر کسی گناہ کا راستہ کھل جائے تو خوش ہو کہ اب میرے لئے گناہ کرنا آسان

بن گیا ہے۔ یہ بھی گناہ کرنے سے زیادہ برا ہے۔

۳..... گناہ پر اصرار کرنا: ایک گناہ کو بار بار کرنا بھی بہت برا کام ہے۔

۴..... گناہ پر فخر کرنا: گناہ پر اترانا اور فخر کرنا بھی گناہ کرنے سے برا کام ہے۔

گناہ کبیرہ میں دس خرابیاں

ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ ہر کبیرہ گناہ کے

اندروں باتیں ہوتی ہیں۔

(۱)..... اس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ

اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے۔

(۲)..... وہ شیطان کو خوش کرتا ہے۔ کیونکہ گناہ کے صدور سے دشمن شیطان خوش

ہوتا ہے۔

(۳)..... وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔۔

(۴)..... وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔

(۵)..... وہ اپنے نفس کے ساتھ بے وقائی کرتا ہے۔ گویا اس نے اس کو آگ میں پڑنے کے قابل بنا دیا۔

(۶)..... وہ اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے۔ ہر گناہ باطنی نجاست کی مانند ہے۔ جس طرح ظاہری نجاست پانی سے دھلتی ہے، اسی طرح گناہوں کی نجاست توبہ سے دھلتی ہے۔

(۷)..... وہ اپنی نگرانی پر مامور فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ نگرانی کرتے ہیں اور یہ تکلیف پہنچاتا ہے۔

(۸)..... وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قبر مبارک میں غمگین کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچائے جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام جب اپنے امتی کے گناہ دیکھتے ہیں تو محبوب علیہ السلام کو غم پہنچاتا ہے۔

(۹)..... وہ باقی مخلوق کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ اس لئے کہ گناہ کے صدور سے اللہ رب العزت کی اترنے والی برکتیں بسا اوقات رک جاتی ہیں۔ اس طرح دوسری مخلوق بھی محروم رہ جاتی ہے۔ مثلاً بارشیں رک جاتی ہیں تو باقی مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔

(۱۰)..... انسان جہاں گناہ کرتا ہے، وہ زمین کے اس ٹکڑے کو قیامت کے دن کے لئے اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے۔

آج کل ویڈیو کیمروں کا زمانہ ہے۔ دکانداروں نے بھی اپنی حفاظت کیلئے ویڈیو کیمرے لگا دیئے ہیں۔ کارخانوں میں بھی ویڈیو کیمرے لگ گئے ہیں تاکہ چوری کا خطرہ نہ رہے۔ اگر کوئی ڈاکہ مار کر چلا جائے تو اس کی پوری فلم آٹومیٹکلی بن رہی ہوتی ہے، پھر اس سے چور کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ ویڈیو کیمرے حفاظت کیلئے لگائے گئے ہیں اور آج چور کو پکڑنا آسان ہو گیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی زمین کا ہر ٹکڑا بھی ویڈیو کیمرہ بن کر گناہ کے اس منظر کو محفوظ کر لیتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (الزلزال: ۵-۴)
 [اس دن کہہ دے گی وہ (زمین) اپنی باتیں، اس واسطے کہ تیرے رب نے
 حکم بھیجا اس کو]

معرفت بھری بات

ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان کئی مرتبہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کے
 باجود اپنے آپ کو بڑا سادک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اسے
 دوسروں کے بارے میں گناہ کا شک ہو جائے تو وہ ان سے نفرت کرنی شروع کر
 دیتا ہے اور اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے نفس کے ساتھ محبت کرتا
 ہے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب معرفت بھری بات لکھی۔
 وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو گرا دینا بڑا آسان کام ہے اور اپنی
 نظر میں اپنے آپ کو گرا دینا سب سے مشکل کام ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض
 دوست جو فرض کی پابندی بھی نہیں کر پاتے، وہ خواب میں کسی بزرگ شکل کو دیکھ لیتے
 ہیں تو وہ اسی پر مست پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حضرت! مجھے خواب بہت اچھے
 آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو خوابوں کے شہزادے بنتے ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے
 ہیں۔

گنہگار اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے

ہمارے مشائخ نے کہا کہ انسان گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کی نگاہوں
 سے گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور سب سے
 پہلے جو توفیق چھینتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت

سے محروم کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ بندہ تہجد میں اٹھتا بھی ہے لیکن اس کی دعاؤں میں کوئی حلاوت نہیں ہوتی۔ بلکہ دعا مانگنے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا، دعا میں طبیعت چلتی ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ طبیعت چل نہیں رہی ہوتی بلکہ وہ چلنے ہی نہیں دی جاتی۔ دن کے گناہوں کی وجہ سے بندہ رات کی عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت! مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا، اے دوست! تو اپنے دن کے اعمال درست کر لے اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمادیں گے۔

ایمان سے محروم کر دینے والے گناہ

ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ تین گناہوں کے ارتکاب سے موت کے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ گناہ بہت خطرناک ہیں۔

(۱)..... احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا:

احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا اور ان احکام کو عمل کے قابل نہ سمجھنا موت کے وقت ایمان کے سلب ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت ہے تو وہ پردے کو بوجھ سمجھے اور اگر مرد ہے تو رشوت اور سود سے بچنے کو بوجھ سمجھے۔ آج کل اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے دوست! اگر کوتاہی ہو جائے تو اپنے آپ کو گنہگار ضرور سمجھئے، کیونکہ گناہ کرنا اور پھر Justify (دلیل سے ثابت کرنا) کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔

ایک آدمی کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں پڑھتا اور اس وقت اس کی روح نکل گئی۔ اس پر اس کے قریب کے کسی عالم

کو تشویش لاحق ہوئی اور اس نے اس کے اہل خانہ سے پوچھا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایسا عمل تو بتاؤ کہ جس کا یہ وبال ہو کہ یہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ طبعاً ست اور کاہل تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کو جب بھی غسلِ جنابت کی ضرورت ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں تو غسلِ جنابت نہیں تھا، دین اسلام میں یہ ایک نیا حکم آ گیا ہے۔ گویا کہ وہ غسلِ جنابت کو بوجھ سمجھتا تھا۔ اس گناہ کی وجہ سے اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے سے محروم کر دیا گیا۔

(۲)..... سوءِ خاتمہ کا ڈر نہ ہوتا:

دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کو دل میں موت کے وقت سوءِ خاتمہ کا بھی ڈر نہ رہے، اس کی وجہ سے بھی انسان آخری وقت میں کلمہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ بندہ جتنا بھی نیک، متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں یہ ڈر ضرور رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں موت سے پہلے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اس بات سے ڈرتا اور کانپتا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. (الاعراف: ۹۹)

[سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے داء سے مگر گھائے میں پڑنے والے]
تو مومن کبھی اللہ رب العزت کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری عمر ڈرتے کانپتے گزارتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔

(۳)..... نعمتِ اسلام پر شکر ادا نہ کرنا:

اگر انسان نعمتِ اسلام پر شکر ادا نہ کرے تو اس کی وجہ سے بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اسی لئے وضو کرتے وقت شروع میں بسم اللہ کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں:

الْإِسْلَامَ حَقًّا وَالْكَفْرَ بَاطِلًا

حدیث پاک میں بھی صبح و شام پڑھنے کے لئے ایک دعا سکھائی گئی ہے:
 رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا
 [میں اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو دین ماننے پر اور محمد ﷺ کو نبی ماننے پر
 راضی ہوں]

گویا ہم اپنے دل میں یہ سوچا کریں کہ الحمد للہ، ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ
 رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔

گناہ کی سزا کی تین صورتیں

بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اس پر ضرور پڑتا ہے..... توجہ فرمائیے گا
 علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سزا تین طرح سے ملتی ہے۔

(۱)..... ایک کو ”نکیر“ کہتے ہیں۔ یعنی گناہ کیا اور ادھر کوئی مصیبت پڑ گئی۔ کئی لوگوں
 کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت! میں نے تجربہ
 کیا ہے کہ جب میں کسی کا دل دکھاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب
 وہ کسی کا دل دکھانے سے بہت گھبراتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا اثر
 دنیا میں ضرور دیکھتا ہے۔ کبھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے
 ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ مثلاً بیوی ہٹ دھرم اور ضدی مل جاتی ہے جو
 گھر کے سکون کی تباہی کا باعث بنتی ہے یا پھر اولاد میں سے کوئی ایسا بن جاتا ہے جو
 اسے موٹے موٹے آنسوؤں سے رلاتا ہے۔ یہ اس گناہ کی نقد سزا مل رہی ہوتی
 ہے۔ اسے نکیر کہتے ہیں۔

(۲)..... کبھی کبھی گناہ کی سزا ملنے میں ”تاخیر“ ہو جاتی ہے۔ تاخیر سے کیا مراد ہے
 ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر سزا نہیں دیتے بلکہ کچھ دیر کے
 بعد سزا دیتے ہیں۔ انسان گناہ تو جوانی میں کرتا ہے اور سزا بڑھاپے میں ملتی ہے اور

بڑھاپے کی سزا بڑی عبرتناک ہوا کرتی ہے۔ فرض کریں کہ بڑھاپے میں بیوی تا فرمان بن جائے اور اس وقت اولاد جوان ہو چکی ہو اور وہ اولاد ماں کا ساتھ دینے والی ہو تو پھر بوڑھے کا جو بڑھاپا گزرے گا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکے گا۔ یا بڑھاپے میں کوئی ایسی بیماری لگا دی کہ دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اس صورت میں بھی بندہ سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب اس عاجز کے پاس آ کر کہنے لگے، حضرت! میں گناہ بھی کوئی نہیں کرتا لیکن بڑی پریشانی رہتی ہے۔ میں نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کئے، کیا ان سب گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہے یا کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے ابھی توبہ نہیں کی؟ کہنے لگے، جی نہیں، کچھ گناہ ایسے ہوں گے کہ جن سے ابھی توبہ نہیں کی۔ میں نے کہا، وہ گناہ نامہ اعمال میں تو لکھے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آسکتی ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے ایک بے ریش عیسائی لڑکے کو دیکھا تو حضرت سے پوچھنے لگا، حضرت! اللہ ایسے چہروں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کی بات سے حضرت سمجھ گئے کہ اس نے شہوت کی نظر سے اس کو دیکھا ہے۔ حضرت نے اسے فرمایا کہ توبہ کر دو کیونکہ تم نے اسے بری نظر سے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا، جی نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے توبہ نہ کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حافظ قرآن تھا، اس گناہ کی محوسات کی وجہ سے بیس سال بعد قرآن پاک کے حفظ کے نور سے محروم ہو گیا۔ یعنی وہ قرآن بھول گیا۔

(۳)..... کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”خفیہ تدبیر“ ہوتی ہے۔ خفیہ تدبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود اس کو نعمتیں دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح ان نعمتوں کو استعمال کر کے غافل ہو جائے اور پھر آخرت کی بڑی سزا کا مستحق بن

جائے۔ اس لئے یاد رکھئے کہ جب انسان گناہ کر رہا ہو اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی دیکھ رہا ہو تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا

فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بِنِقَّةٍ (الانعام: ۴۴)

[پھر جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ان کے لئے ہر چیز کے دروازے کھول دیئے حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے جو ان کو نعمتیں ملی تھیں، ہم نے

ان کو اچانک اپنی پکڑ میں لے لیا]

کئی مرتبہ انسان اس کو سزا سنا ہی نہیں اور یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے اور بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔

بنی اسرائیل کا ایک عالم کسی گناہ میں ملوث ہو گیا۔ وہ ڈرتا رہا کہ کہیں اس گناہ کا وبال نہ آ پڑے۔ کچھ عرصہ بیت گیا۔ ایک مرتبہ اس نے دعا مانگتے ہوئے یہ دعا مانگی، اے اللہ! تو کتنا مہربان ہے کہ میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تو مجھ پر اپنی تمام نعمتیں سلامت رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے بندے! نعمتیں مجھ سے نہیں بلکہ تجھ سے لی گئی ہیں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا، اے اللہ! ایسی کون سی نعمت مجھ سے لی گئی ہے؟ فرمایا گیا کہ تو غور کر کہ جس دن سے تو گناہ کا مرتکب ہو ہے، اس دن سے ہم نے تجھے رات تہجد کے وقت رونے کی لذت سے محروم کر دیا ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ واقعی جب سے گناہ کا مرتکب ہو اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رات کو مناجات کی لذت چھین لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں گناہوں کی سزا ضرور دیتے ہیں۔ اسی لئے کسی نے کہا۔

عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں
زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے

چھ کام بے فائدہ ہوتے ہیں

چھ کام بے فائدہ ہوتے ہیں۔

(۱)..... انسان یہ سمجھے کہ میرے دل میں اللہ کا بہت خوف ہے مگر وہ گناہوں سے نہ
بچے تو یہ خوف بے فائدہ ہے۔

(۲)..... جو انسان یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں ہیں مگر وہ عمل کرنے کی
کوشش نہ کرے تو یہ امید بھی بے فائدہ ہے۔ اس لئے عمل کی کوشش ضرور
کرے۔

(۳)..... آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگے مگر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہ ہو تو وہ دعا بھی
بے فائدہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں۔ جب حسن
ظن ہی نہیں ہوگا تو پھر دعا کیا قبول ہوگی۔

(۴)..... ندامت کے بغیر استغفار بے فائدہ ہوتی ہے۔

(۵)..... اصلاح باطن کے بغیر ظاہر بے فائدہ ہوتا ہے..... اور

(۶)..... اخلاص کے بغیر عمل بے فائدہ ہوتا ہے۔

توبہ نصوح کے لئے چار کام

انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے..... توبہ کیسے کرے؟ ذرا

توجہ سے سنئے، اہم بات ہے۔

☆..... پہلا کام یہ کرے کہ جو گناہ ہو چکے ہوں ان پر دل میں نادم اور شرمسار ہوا اور

آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔

☆..... پھر دوسرا کام یہ کرے کہ وہ اپنے دل کو حسد اور کینے سے خالی کر لے۔ کیونکہ

جب گناہ سے توبہ کر رہا ہو اور سینہ کینے سے بھرا ہوا ہو تو وہ توبہ بھلا کیا فائدہ دے گی۔ لہذا اس کے دل میں مومن کے بارے میں انتقام، نفرت اور دشمنی نہ رہے وہ سب کو اللہ کے لئے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک صحابی ؓ کو آتے دیکھا تو فرمایا کہ وہ جنتی آرہا ہے، جنتی آرہا ہے۔ سننے والے بہت حیران ہوئے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب کے دل میں خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں کہ اس کا کون سا خاص عمل ہے کہ اس کے لئے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ اسے کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تین دن آپ کے گھر مہمان بنوں۔ انہوں نے کہا، جی ضرور تشریف لائیے۔ وہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے تین دن تک اس کو دیکھا مگر ان کو کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ جس طرح باقی لوگ تہجد اور دیگر نوافل پڑھتے تھے اسی طرح وہ بھی پڑھتے۔ ان کو کوئی انوکھی بات نظر نہ آئی۔ تین دن کے بعد انہوں نے پوچھا، بھئی! میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں یہ الفاظ سنے تھے اور اسی لئے میں آپ کے ہاں مہمان بنا کہ مجھے آپ کے اندر وہ خاص عمل نظر آئے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن مجھے تو آپ میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، اگر کوئی ہے تو آپ خود ہی بتادیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جب میں رات کو بستر پر سونے کے لئے لیٹتا ہوں تو میں اپنے دل میں ایمان والوں کے بارے میں پائے جانے والے غصہ اور کینہ کو اللہ کے لئے ختم کر دیتا ہوں۔

☆ ... اس کے بعد تیسرا کام یہ کرے کہ وہ فاسق و فاجر لوگوں سے ہمیشہ کے لئے علیحدہ ہو جائے۔ ہم روزانہ وتر میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں:

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ

[اور (اے پروردگار!) ہم جدا ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہر اس بندے کو

[جو فاسق و فاجر ہے]

ہم روزانہ رات کو عشاء کے وقت کھڑے ہو کر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ باندھ کر وعدہ کرتے ہیں اور دن پھر انہی لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا چاہے رشتہ داری ہی ہو، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دوستی ختم کر دے۔ لیکن دین کا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ کرنا ہی ہوتا ہے، وہ تو کافروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ مگر ایک ہونا ہے دوستی کا تعلق، قلب کا تعلق، وہ توڑ لے۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ اب اس کو سلام بھی کبھی نہیں کرنا، نہیں بلکہ جو اصول شریعت نے بنا دیئے ہیں ان کی حدود میں رہیں اور دل کی محبت کا جو تعلق تھا اس کو ختم کر لیں اور پرہیزگار لوگوں سے دوستی رکھیں۔ اگر پھر بھی بدکار لوگوں کے ساتھ صحبت رہے گی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہ لوگ پھر گناہوں میں ملوث کر دیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی گندی نالی میں پڑا ہو تو اس کے اوپر وہی پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو نالی سے نکال کر پاک پانی میں ڈالیں تو پھر وہ صاف ہوگا۔ اسی طرح ہم اگر اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو فاسق و فاجر لوگوں کی گندی نالی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ پھر اگر اس پر اللہ کے ذکر کے چند قطرے پڑ جائیں گے تو یہ دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول کا پاس کریں جو ہم روزانہ اپنے پروردگار کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں۔

☆..... اس کے بعد جو تھا کام یہ کرے کہ موت کی تیاری میں لگ جائے۔

جس بندے نے یہ چار کام کر لئے، وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توبہ انصوح کی توفیق عطا فرمادی ہے۔

توبہ نصوح کے چار انعامات

جب بندہ توبہ نصوح کر لیتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی چار کام کر دیتے ہیں:

(۱)..... اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا:

التَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ

[گناہوں نے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے]

(۲)..... اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کئے ہی نہیں تھے۔

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

[گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں]

چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو آئندہ شیطان کے فریب اور ہتھکنڈوں سے بچا لیتے ہیں۔

إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (الحجرو: ۴۲)

[اے مردود! جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا]

اس کا کیا مطلب؟..... کیا وہ فرشتہ بن گیا؟ کیا اس سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا؟ نہیں، نہیں..... اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اس سے کوئی ایسا گناہ تو ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جائے یا اسے اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جائے لیکن اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہوئی بھی تو فوراً اس سے توبہ کر

کے معافی مانگ لے گا۔

(۴)..... ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے فرشتوں کو بھیج کر اس کے اچھے انجام کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔

تَسْنَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. (خم السجدة: ۴۰)

[ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سناؤ اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا]

اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمادے۔

میرے دوستو! توبہ کرتے رہیے کرتے رہیے۔ حتیٰ کہ اتنی بار توبہ کیجئے کہ شیطان تھک جائے اور یہ کہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میں بار بار محنت کر کے گناہ کر داتا ہوں اور یہ توبہ کر کے سب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرے۔

ایک شرابی کی بخشش کا واقعہ

ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے پڑوسی کا جنازہ تیار ہے، تم جا کر اس کا جنازہ پڑھو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ ان کا پڑوسی بڑا شرابی بندہ تھا۔ اب وہ اٹھ تو بیٹھے لیکن بڑے حیران تھے کہ اس پڑوسی کے بارے میں مجھے خواب میں فرمایا گیا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کے اہل خانہ سے پچھوایا کہ اس کو موت کس حال میں آئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک غافل سا بندہ تھا لیکن

موت کے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کر رہا تھا:
 ”اے دنیا و آخرت کے مالک! اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے
 نہ آخرت ہے۔“

اس عاجزی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کے گناہوں کو
 معاف فرمادیا..... سبحان اللہ

بادشاہ کی پیشکش اور اس کا جواب

ایک بادشاہ نے ایک عالم سے کہا کہ آپ بہت دور رہتے ہیں، مجھے آپ سے
 بڑی محبت ہے، آپ آئیں اور میرے پاس آ کر رہیں..... اگر آج کل کے کسی
 بندے کو بادشاہ دعوت دیتا تو وہ سر کے بل چل کر جاتا۔ لیکن وہ اللہ والے تھے
 جب انہیں یہ پیغام ملا تو وہ آئے اور انہوں نے بادشاہ سے بھرے دربار میں کہا،
 ”بادشاہ سلامت! اگر میں آپ کے پاس آ کر رہوں اور آپ کی کوئی باندی
 ہو اور آپ مجھے کسی دن دیکھیں کہ میں آپ کی اس باندی کے ساتھ زنا کا
 مرتکب ہو رہا ہوں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟“
 بادشاہ یہ سنتے ہی سخت غضب ناک ہوا اور کہنے لگا،

”کیا تو ایسا انسان ہے؟ تیری یہ کیسی جرأت ہے کہ تو میرے ہاں آئے اور پھر
 یہاں حرام کاری کا مرتکب ہو۔“

جب بادشاہ خوب غضب ناک ہو گیا تو وہ عالم کہنے لگے،
 ”بادشاہ سلامت! ابھی تو میں اس گناہ کا مرتکب ہی نہیں ہوا اور آپ مجھ پر ابھی
 سے غضب ناک ہو گئے، تو میں اس کریم کا در چھوڑ کر آپ کے در پر کیسے آؤں جو گناہ
 کرتے ہوئے دیکھ کر بھی مجھ پر غضب ناک نہیں ہوتا“..... سبحان اللہ

ایک کفن چور کی سچی توبہ کا واقعہ

فقہیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کے لئے آئے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پلج گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے نوجوان! کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا۔ سخت پریشان ہوں، لہذا آپ مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر! آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا۔ وہ بہت زار و ہا تھا۔ اس کی آہ و زاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، عمر! اس کو اندر بلا لو۔ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمادی تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان! کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! میرا گناہ بڑا ہے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! میرا گناہ بڑا ہے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟
اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ﷺ! میں نے شرک کا ارتکاب تو نہیں کیا۔
نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟
اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ﷺ! میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا۔
نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، تو پھر ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا
ہے؟

اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں سگی
مالوں سے کفن چوری کا کام کرتا تھا۔ مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت
پوری کرتا۔ چند دن پہلے انصاری کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت
کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر
شیطان غالب آیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور میں نے اس مردہ
لڑکی کے ساتھ زنا کیا..... جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ
لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے! تو نے مجھے مردوں کے جمع
میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر جنت میں کھڑا ہونے پر
مجھ پر توبہ کر دیا..... اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا رعب ہے کہ میں سمجھتا ہوں
کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکار میں ہوں۔

جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ ﷺ
نے فرمایا کہ تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک
کیا.....!!! جب اللہ کے محبوب ﷺ نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ
نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب ﷺ
تاریخ میں ہیں۔ کہیں کوئی ایسی بات آپ ﷺ کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو

میر کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لئے وہ باہر چلا گیا۔

جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان چالیس دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ رورور کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا کہ اے میرے مالک! میں آپ کے محبوب ﷺ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ! میں اب کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ کہنے والے نے کہا:

میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا

میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا

جب اس نے چالیس دن معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے سلام پیش کئے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے محبوب ﷺ! بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا۔

پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔

جب یہ باتیں ہوئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا

ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہی نے مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔

جب محبوب ﷺ نے یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرص لیا کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب! اس بندے نے میرے سامنے رور و کراتی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا..... سبحان اللہ، سبحان اللہ .. پھر اللہ کے محبوب ﷺ نے صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔

وہ پروردگار اتنا کریم ہے کہ وہ معافی مانگنے والے بندے کی معافی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لئے میرے دوستو! ابھی آنکھیں سلامت ہیں، اپنے گناہوں پر آنسو بہا لیجئے۔ ابھی زبان سلامت ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور یہ زبان بھی بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے پہلے اپنے رب کو منا لیجئے اور اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو دور کر دلیجئے۔ وہ پروردگار بڑا کریم ہے۔ جب اس کا کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب کے در پر آ کر اپنے رب کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے تو پروردگار نے فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا. (التحريم: ٨)

[اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو]

قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس محفل سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر سچی توبہ کی نیت کے

ساتھ اپنے رب کو منا لیجئے۔ کیا معلوم کہ اس محفل میں اللہ کا کوئی ایسا تخلص بندہ ہو جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اس کی برکت سے ہماری بھی بگڑی بن جائے اور ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ یاد رکھئے کہ اگر ہم معافی کے بغیر اس مسجد سے اٹھ کر چلے گئے تو پھر دوسرا تو کوئی در نہیں جہاں جا کر ہم معافی مانگیں گے۔ میرے دوستو! اگر کوئی مسجد سے نکل کر جہنم میں چلا گیا تو اس پر کوئی حسرت نہیں، حسرت تو اس پر ہے جس کی معافی قبول نہ ہو اور وہ مسجد سے نکل کر جہنم میں چلا جائے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم پر رحم فرمادے اور اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرمادے اور ہماری عاجزی کو قبول فرما کر ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمالے۔ (آمین ثم آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین.





لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ. (البلد: ۳)

عزت دین میں ہے

یہ بیان 21 اکتوبر 2002ء برطانیہ ۱۳ شعبان ۱۴۲۳ھ کو جامع مسجد
مدینہ جنگ میں آٹھویں سالانہ تقابلی تربیتی اجتماع کی اختتامی
تقریب میں بعد نماز فجر ہوا۔ اس اجتماع میں شمولیت کے لئے
اندرون و بیرون ملک سے حضرت اقدس دامت برکاتہم کے خلعائے
کرام اور ہزاروں سالکین طریقت موجود تھے۔

اقتباس

جو انسان رب کریم کو راضی کر لیتا ہے پھر اللہ رب
العزت اسے دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں
بھی عزتیں دی جاتی ہیں۔ اس دین کی لائن سے وہ عزتیں
ملتی ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو نہیں ملتیں
..... دین اسلام میں عجیب لذت ہے ایسا تو ہوا کہ
وقت کے بادشاہ نے شاہی چھوڑ دی اور اس نے فقیری
اختیار کر لی لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی باخدا فقیر نے
فقیری چھوڑ کر شاہی اختیار کر لی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ جو
مزرہ فقیری میں ہے وہ مزرہ شاہی میں نہیں ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

عزت دین میں ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَا بَعْدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (البلد: ۴)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ ۝

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

ہر حال آزمائش کا حال ہے

دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے۔ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت

دار البقاء ہے۔ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار التمرور ہے۔ ہم سب کے سب

یہاں مسافر ہیں۔ ہم خوشی کے عالم میں ہوں یا غمی کے عالم میں، صحت مند ہوں یا

پیار، مشغول ہوں یا فارغ، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہمارا سفر ہر حال میں جاری و

ساری ہے۔ ہم اپنی منزل کی طرف ہر وقت رواں دواں ہیں۔ ہر دن ہمیں منزل کے

قریب سے قریب تر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا امتحان گاہ بھی ہے لہذا

یہاں ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم کسی کو کھلا رزق دے کر آزماتے ہیں

اور کسی کا رزق تنگ کر کے آزماتے ہیں۔ کسی کو عزت دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو

ذلت دے کر آزماتے ہیں۔ کوئی صحت کی کیفیت میں آزمائش میں ہے اور کوئی بیماری

کی حالت میں آزمائش میں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکموں کو مد نظر رکھے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرے۔

حقیقی معنوں میں بے وقوف انسان

اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ایسے جال اور پھندے بنوادئے ہیں کہ انسان ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے عقلمندوں کو دھوکے لگتے ہیں۔ کہنے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں مگر ان کو نماز کی فرصت نہیں ہوتی۔ کہنے کو بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن اللہ کے گھر کا دروازہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ ایسا عقلمند حقیقت میں بے وقوف انسان ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں کہا،

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ

[یہ لوگ وہ قوم ہیں جنہیں عقل ہی نہیں]

ان کو حقیقت سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اصل بات کیا ہے۔ انسان وقتی لذتوں اور واہواہ کے پیچھے ایسا الجھ جاتا ہے کہ مقصود حقیقی سے نظر ہٹ جاتی ہے۔

جاہی اور باہی گناہ

حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) جاہ سے تعلق رکھنے والے گناہ

(۲) باہ سے تعلق رکھنے والے گناہ

جاہ سے مراد وہ گناہ جو مقام اور مرتبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً مجھے بڑا عالم سمجھا

جائے..... جو صفات مجھ میں ہیں وہ کسی اور میں نہیں..... اعرف فونسی (مجھے پہچانو)

..”ہم چوں ما دیگرے نیست“ یعنی ہم جیسا اور کوئی نہیں۔ حقیقت میں وہ کہتے ہیں

”ہم چوں ماڈنگرے نیست“ یعنی جیسے ڈنگرہم ہیں ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دوسرے گناہ باہ یعنی شہوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو گناہ جاہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں کیونکہ عمومی طور پر جو انسان باہ کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس کی ندامت کسی بھی وقت معافی کا سبب بن سکتی ہے لیکن جاہ کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ عجب، خود پسندی اور تکبر جاہی گناہ ہیں۔ ایسے گناہوں کا انسان کے اندر سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خود پسندی اور تکبر تو اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ اللہ کے محبوب ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

[جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا]

ذرہ انگریزی میں ایٹم کو کہتے ہیں۔ اس لئے یہ عاجز کہتا ہے کہ تکبر ایک ایٹمی گناہ ہے۔ کیونکہ جس طرح ایٹمی ہتھیار تباہی پھیلاتے ہیں اسی طرح تکبر بھی زندگی میں جاہی پھیلا دیتا ہے۔ یہ بڑی دیر کے بعد نکلتا ہے۔

حدیث پاک میں ہلاک کر دینے والے کاموں میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے: وَاعْتَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ ”بندے کا اپنے اوپر عجب کرنا“ یاد رکھئے کہ نیکی کے ساتھ خود پسندی، عجب اور تکبر بھی چلتا رہتا ہے۔ آدمی ایک طرف پرہیزگاری کی زندگی بھی گزارتا ہے مگر دوسری طرف اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا۔ ایک بات یاد رکھئے کہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت آسان ہے مگر اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت مشکل کام ہے۔ انسان اللہ کا دوست اس وقت بنتا ہے جب اپنے آپ کو اپنی نظر میں گرانا ہے۔ اسی لئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا

[اے اللہ! مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے]

آج کل جسے چند سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنی نیکیوں پر فریفتہ ہوا پھرتا ہے۔ اس اجتماع کا مقصد اس خود پسندی کے بت کو توڑنا اور اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ نفس کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی زندہ چیز ہے جس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا بلکہ نفس کو مارنے کا مطلب اپنے اندر کی خواہشات کو قابو میں لے آنا ہے۔

آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے کا حکم

دنیا فانی ہے اور اس کی حیثیت کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ (العنکبوت: ۶۳)

[اور یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل تماشہ]

اس لئے چاہیے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جائے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آجائے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پیغام پہلی کتابوں میں بھی دیا گیا اور آخری کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے:

بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (الاعلیٰ: ۱۷-۱۶)

[تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔]

یہ ایسا پیغام ہے جو انسانیت کو شروع سے لے کر آج تک مل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

(الاعلیٰ: ۱۸-۱۹)

[بے شک یہی کچھ پہلے صحیفوں میں بھی تھا، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں]

ہمیں ان آیات میں آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر دنیا فنا ہونے والا سونا ہوتا اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری ہوتی تو پھر بھی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم آخرت کو دنیا پر مقدم کرتے۔ جب کہ معاملہ الٹ ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ٹھیکری کی مانند ہے اور آخرت باقی رہنے والے سونے کی مانند ہے، ہم اس آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دین کو دنیا پر ترجیح دے۔ جس شخص نے دین کو دنیا پر ترجیح دینا شروع کر دی اس نے گویا دنیا سے کنارہ کشی شروع کر دی۔ دنیا میں اتنے پھندے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں پر تعجب نہیں ہوتا بلکہ تعجب ان پر ہوتا ہے جو ان پھندوں سے ایمان سلامت لے کر چلے جاتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں..... ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بغیر محنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور ہم یہاں دنیا سمیٹنے کے لئے محنت کرتے ہیں جب کہ آخرت کو محنت کے ساتھ مشروط کیا ہے اور ہم اس کے لئے ہرگز محنت نہیں کرتے..... یاد رکھئے کہ اس دنیا میں سب طمع کے یار ہیں۔ اصل یار اللہ رب العزت ہے یا پھر اللہ کے پیارے محبوب ﷺ ہیں یا پھر وہ اولیاء جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو طمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ رہ گئی بات رشتہ داری اور برادری کی، ان کو تو اگر اپنے گوشت کا قیمہ بنا کر بھی کھلا دو تو پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔

دنیا کی حقیقت

حقیقت دنیا دیکھئے کہ انسان کا بہترین لباس ریشم کا لباس ہے جو ایک کیڑے کی تھوک ہے اور انسان کا بہترین مشروب شہد ہے اور یہ ایک مکھی کا لعاب ہوتا ہے۔ کیڑے کی تھوک ریشم بنا اور مکھی کا لعاب شہد بنا۔ یہ ریشم اور شہد دنیا کا بہترین لباس اور بہترین مشروب ہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی کہ جس کے پیچھے لگ کر انسان اپنے مالک کو ناراض کر لیتا ہے۔ یہ کتاب بڑا نقصان ہے۔

وہ مزہ شاہی میں نہیں

جو انسان رب کریم کو راضی کر لیتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں دی جاتی ہیں۔ اس دین کی لائن سے وہ عزتیں ملتی ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو نہیں ملتیں..... دین اسلام میں عجیب لذت ہے..... ایسا تو ہوا کہ وقت کے بادشاہ نے شاہی چھوڑ دی اور اس نے فقیری اختیار کر لی لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی باخدا فقیر نے فقیری چھوڑ کر شاہی اختیار کر لی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ جو مزہ فقیری میں ہے وہ مزہ شاہی میں نہیں ہے۔

اللہ والوں کے خادم

دنیا کے بادشاہوں کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے خادم وقت کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں.....

☆..... ہمیں سمرقند میں امیر تیمور کا مقبرہ دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے مقبرے کے دروازے پر ”امیر عالم“ کا خطاب لکھا ہوا ہے۔ اسے اپنے وقت کا قاجار دنیا کہا جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں اس کی قبر تھی اس کے بالکل اوپر ایک اور قبر تھی۔ ہم نے

حیران ہو کر پوچھا کہ فاتح دنیا کی قبر کے اوپر کس کی قبر ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ یہ اس کے شیخ کی قبر ہے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مردوں تو مجھے اس طرح دفن کرنا کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں کے بالکل قریب ہو۔

☆..... حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سرہند شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے مقبرے پر جانے کے لئے ایک کشادہ سڑک پر جاتے ہیں۔ مگر راستے میں ایک قبر کی وجہ سے اس سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پھر ایک کر دیا گیا ہے۔ اس عاجز نے وہاں کے سجادہ نشین سے پوچھا کہ اتنی اچھی سڑک جا رہی تھی اور اس قبر کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ کیا سڑک بعد میں بنی یا قبر؟ وہ کہنے لگے کہ قبر بعد میں بنی۔ میں نے کہا کہ اتنی اچھی سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں یہ ہے کہ اس قبر میں مدفون شخص افغانستان کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت خواجہ محمد معصوم کا مرید تھا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مردوں تو مجھے اپنے شیخ کی قبر کے راستے میں دفن کرنا..... اللہ اکبر.....!!!

اللہ والوں کی حکومت

یاد رکھئے کہ بادشاہوں کی عزت وقتی ہوتی ہے جب کہ اللہ والوں کی عزت دائمی ہوتی ہے۔ اور بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے جب کہ اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے..... ایک انگریز اجیر شریف آیا۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے لوگوں کو اپنے Comments (تاثرات) بتائے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے زندہ لوگوں کو تو حکومت کرتے بہت دیکھا ہے، میں ایک ایسے ملک میں گیا ہوں جہاں قبر میں پڑا ہوا ایک شخص لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔

صبر جمیل اور ہجر جمیل

دو باتوں کی وجہ سے انسان دنیا کے معاملات کو بہت جلدی سمیٹ لیتا ہے۔

(۱) صبر جمیل (۲) ہجر جمیل

صبر جمیل اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ناگوار کام ہو تو انسان صبر کرے اور شکوہ ہرگز نہ کرے۔ چنانچہ علماء نے بھی صبر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ

الصبر التي لا شكوى فيه

[صبر وہ ہے جس کے اندر شکوہ نہ ہو]

اگر کسی نے دکھ بھی دیا ہو تو انسان اس سے شکوہ ہی نہ کرے۔ مومن دنیا کی خاطر نہیں الجھتا۔ نہ تو وہ مقابلہ بازی کرتا ہے اور نہ ہی ضد بازی کر کے جھگڑا بڑھاتا ہے۔ اسے اگر کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو وہ ”صبر جمیل“ کا مظاہرہ کرتا ہے۔

اگر کوئی بہت ہی زیادہ ایسا معاملہ ہو تو ”ہجر جمیل“ پر عمل کرتا ہے۔ ہجر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس سے اچھے انداز میں جدائی اختیار کر لیتا ہے۔ آج تو تعلق بھی ہوتا ہے اور عداوت بھی چلتی ہے۔ دشمن کے رنگ میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں..... کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے..... اس دنیا میں انسان کو مختلف قسم کے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ خوشی بھی امتحان ہے اور غم بھی امتحان ہے مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے بندے کو خوشی ملے تو یہ میری بارگاہ میں شکر ادا کرے اور اگر اس کو کوئی غم ملے تو یہ اس پر صبر کر کے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔

حق و باطل کی جنگ

یہ دنیا اضداد کا مجموعہ ہے۔ اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ

وَبَصِيحَتِهَا تَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ

[اور ضد سے چیزیں واضح ہوتی ہیں]

مثلاً.....

- اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر نہ آتی،
- اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر نہ آتی،
- اگر دھوپ نہ ہوتی تو سائے کی قدر نہ آتی،
- اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر نہ آتی،
- اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی قدر نہ آتی،

اسی طرح حق اور باطل بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو حق کی طرف بلا تے ہیں اور شیطان انسان کو باطل کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کس کی مان کر زندگی گزارتا ہے۔ آیا نفسانی اور شیطانی خواہشات کے پیچھے لگ کر زندگی گزارتا ہے یا ان خواہشات کو دبا کر اپنے مالک کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتا ہے۔ حق و باطل کی یہ جنگ مخفی طور پر موت تک چلتی رہتی ہے البتہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ حق و باطل کی کھلی نشانیاں بھی دکھائیں گے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ ﷺ کا تشریف لانا اور دجال کا ظاہر ہونا بھی حق و باطل کا ایک واضح مقابلہ ہو گا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس میں بڑی مناسبتیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر.....

◎..... اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ﷺ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت انسانی بنائی اور فطرت ملکوتی بنائی اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت انسانی بنائی اور فطرت شیطانی بنائی۔

◎..... اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ﷺ کو سچ ہدایت کا لقب عطا کیا اور دجال کو سچ ضلالت کا لقب دیا۔ گویا ایک طرف سچ ہدایت ہیں اور دوسری طرف سچ ضلالت

ہے۔

⑤..... اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں رکھا۔ قرب قیامت میں ان کو بیت المقدس مسجد کے مینار کے اوپر نازل فرمائیں گے..... حدیث پاک میں ان کے لئے یَسْرُوْا كَالْقَطْرِ الْمَاءِ یعنی نازل ہوں گے..... اور اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا کیا اور ایک جزیرے کے اندر مجبوس فرما دیا..... حدیث پاک میں اس کے لئے یَخْرُجُ اور يَنْظُرُ كَالْقَطْرِ الْمَاءِ ہے۔ یعنی وہ ظاہر ہوگا۔

⑥..... جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے تو اس وقت ان کی کہولت (ادھیڑ پن) کی عمر ہوگی اور جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کی بھی کہولت (ادھیڑ پن) کی عمر ہوگی۔

⑦..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی عبدیت کا دعویٰ کیا۔ قرآن عظیم الشان گواہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ (بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں) اور جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔

⑧..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال میں اتنی برکت ہوگی کہ کوئی بندہ بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا اور جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ دنیا کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔

⑨..... اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے دجال بھی استدراج کے طور پر مردوں کو تھوڑی دیر کے لئے زندہ کر سکے گا۔

⑩..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک سب لوگ راہ راست پر

نہیں آجائیں گے۔ دجال کا قتلہ بھی مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا..... بالآخر حق و باطل کی اس جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوگی اور وہ دجال کو مقام لہ پر لے جا کر قتل فرمائیں گے۔

مغنی طور پر یہ جنگ ہماری زندگی میں بھی ہو رہی ہے۔ ہر انسان کے دل پر اللہ رب العزت نے فرشتے کو متعین کیا ہوا ہے جو اس میں خیر کا جذبہ ڈالتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان بنی آدم کے دل کے اوپر ڈیرے ڈال کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو خیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں جب کہ شیطان اس کو شر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر خیر غالب آتی ہے یا شر۔ انسان اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھے تو اس کے اندر سے شر نکل جاتا ہے اور خیر آ جاتی ہے۔ اس طرح دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔

نبی ﷺ کی مسکنت پسندی

یاد رکھیں کہ ہم سب نے مرنے کے بعد مٹی میں جانا ہے اس لئے بہتر ہے کہ ہم زندگی میں ہی مٹی سے مانوس ہو جائیں اور اپنے نفس کو خود ہی مٹا دیں۔ جو اپنے آپ کو مٹی جیسا بنائے اس کو مسکین کہتے ہیں اور یہ مسکین لوگ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے فقراء مہاجرین کی زندگی مسکنت کی زندگی تھی۔ ان کے پاس دنیا کا مال پیسہ بہت تھوڑا تھا۔ انکے جسم پر لباس بھی پھٹا ہوا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محفل میں حاضر ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے تاکہ کپڑے کی پھٹی ہوئی جگہ سے ہمارے جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر کہیں محبوب ﷺ کی نگاہ نہ پڑ جائے۔

لیکن انہی فقراء مہاجرین کا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ تھا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ان فقراء مہاجرین کا تذکرہ کیا کہ اے اللہ! ان کی برکت سے ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ خود نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب دعا مانگی۔ فرمایا،

اللَّهُمَّ أَخِيْنِيْ مَسْكِيْنًا وَّ اٰمِيْتِيْ مَسْكِيْنًا وَّ اٰخِشْرِيْ فِيْ ذُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

[اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، اور مسکینوں میں موت دینا اور میرا حشر مسکینوں میں کرنا]

سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ

اللَّهُمَّ أَخِيْنِيْ صِدِيْقًا

اللَّهُمَّ أَخِيْنِيْ صَالِحًا

اللَّهُمَّ أَخِيْنِيْ عَابِدًا

کیونکہ اگر ان الفاظ سے دعا مانگتے تو صدیق، عالم اور عابد کہنے سے دعویٰ کا اظہار ہوتا، اس لئے محبوب ﷺ نے اپنے لئے مسکین کا لفظ پسند فرمایا۔ سبحان اللہ

فقراء کی امتیازی شان

ایک مرتبہ فقراء کی محفل میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء! اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں تین چیزیں ایسی عطا کریں گے جو انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہوں گی۔

(۱)..... میری امت کے فقراء قیامت کے دن میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے اور وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔

(۲)..... فقراء کو تسبیح پڑھنے پر اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائیں گے جو مالدار انسانوں کو مال کے خرچ کرنے پر بھی نہیں مل سکتا۔

(۳)..... اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں فقراء کو اتنے بلند درجے عطا فرمائیں گے کہ مالدار لوگ جنت میں ان فقراء کے محلات کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح دنیا میں آسمان کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں..... سبحان اللہ..... اللہ تعالیٰ یوں فقراء کو امتیازی شان عطا فرمائیں گے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فقراء سے دوستی رکھا کرو، اس لئے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم سے جن لوگوں نے دوستی کی یا تم نے جن لوگوں سے محبت کی، تم خود بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فقیر کو فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن وہ کھڑا رہے گا۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو تو اجازت مل گئی ہے پھر آپ کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کہے گا کہ مجھے شرم آرہی ہے کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں اور جن لوگوں نے مجھے کھلایا اور پلایا وہ ابھی پیچھے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی اس بات کو پسند فرما کر حکم دیں گے کہ جتنے لوگوں کو تم سے محبت کا تعلق تھا تم ان سب کو لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔

حوصلہ افزائی ہو تو ایسی

ابوسلیمانی دارانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ غربت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی کوئی تمنا پوری نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈی سانس لے لیتا ہے تو اس کا یہ ٹھنڈی سانس لینا غنی آدمی کی سو سالہ عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے..... اس کے علاوہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ

الفضل العبادۃ العطار مصائب کے اندر رحمۃ الہی کا انتظار کرنا عبادتوں میں سے

سب سے افضل عبادت ہے۔

اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت! بڑی دعائیں مانگتے ہیں لیکن حالات ہی نہیں بدلتے، اتنی مدت سے پریشان ہیں، یہ پریشانیاں ہی جان نہیں چھوڑتیں..... وہ حضرات ذرا اس حدیث کو تو سیں کہ جو آدمی مصائب کے اندر گرفتار ہو جائے اور دعائیں مانگا ہو کہ اے اللہ! ان مصیبتوں کو ختم کر دے تو اس انتظار پر اس کو وہ اجر ملتا ہے جو عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنے پر بھی نہیں ملتا۔ اگر حالات دنیا کے اعتبار سے اچھے نہ ہوں تو صبر کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں۔

اہل دل کسے کہتے ہیں؟

ایک علمی نکتہ سنئے..... آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھی کے پر ہوتے ہیں مگر اس کو پروانہ نہیں کہتے۔ اس لئے کہ اس کا مطلوب نجاست ہے۔ چونکہ نجاست اس کا مطلوب ہے اس لئے پر ہونے کے باوجود اسے پروانہ نہیں کہتے۔ اسی طرح دنیا دار بندہ دل تو رکھتا ہے لیکن چونکہ اس کا مطلوب دنیا ہوتی ہے اسی لئے اس کو اہل دل نہیں کہتے۔ اہل دل ان کو کہتے ہیں جن کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔

ایک عبرت آموز واقعہ

یاد رکھیں کہ کسی غریب یا گنہگار کو کم نظر سے نہ دیکھا کریں کیونکہ کیا پتہ کہ وہ غریب آدمی اللہ کی نظر میں اس امیر آدمی کی نسبت بہت زیادہ پسندیدہ ہو اور کیا پتہ کہ وہ گنہگار آدمی ایسی توبہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ ﷺ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک گنہگار آدمی کو دیکھا۔ وہ اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم اور شرمندہ ہو رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میری توبس یہی خواہش ہے کہ میرا مالک مجھے معاف فرمادے۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر آپ نے ایک عبادت گزار آدمی کو دیکھا۔ آپ نے اس سے بھی پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے اس گنہگار آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر اس کے ساتھ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ﷺ پر وحی نازل فرمادی کہ اے میرے پیارے روح اللہ! آپ ان دونوں سے کہہ دیں کہ میں نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ جو گنہگار مجھ سے رحم طلب کر رہا تھا میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس پر جنت واجب کر دی ہے اور عبادت گزار نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا، اب چونکہ وہ گنہگار جنت میں پہنچ چکا ہے اسلئے اب میں اس عبادت گزار کو جنت کی بجائے جہنم میں داخل کروں گا..... اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نہ تو ہم اپنی عبادت پر ناز کریں اور نہ ہی کسی گنہگار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔

غریبوں کی آہ سے ڈرو

امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو۔ اس لئے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا اور اگر غریب نے آہ بھری تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکائے گا۔

ایک مرتبہ سردارانِ قریش، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں تھے۔ اللہ کے محبوب ﷺ کی چاہت تھی کہ اگر یہ لوگ دین میں آجائیں تو انکی وجہ سے بہت سارے لوگ دین میں آجائیں گے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان کو نصیحت فرماتا

شروع کر دی۔ جب آپ ﷺ انکو نصیحت فرما رہے تھے تو اس وقت ایک نابینا صحابی چلتے ہوئے آئے اور محبوب ﷺ کی خدمت میں طلب گار ہوئے کہ مجھے بھی نصیحت کی جائے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو اپنا ہے، اس کو تو بعد میں بھی نصیحت کر سکتے ہیں اور یہ قریش مکہ اس وقت آئے بیٹھے ہیں اس لئے اس وقت میں کسی اور سے بات نہیں کرتا۔ لہذا جب نابینا صحابی نے اپنی بات بڑھانے کی کوشش کی تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دل میں کچھ رنجش سی پیدا ہو گئی اور آپ کے چہرہ انور پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا۔ محبوب ﷺ کے مبارک چہرے پر جو غصے کے تھوڑے سے آثار ظاہر ہوئے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیات اتار دیں اور اپنے محبوب ﷺ سے محبوبانہ خطاب فرمایا کہ

عَبَسَ وَ تَوَلَّىٰ ۖ اِنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۚ وَ مَا يُذْرِیْكَ لَعَلَّہٗ یَزْكٰی ۚ اَوْ
 یَذْكُرُ فَتَنْفَعُہُ الذِّكْرٰی ۚ اَمَّا مَنْ اَسْتَفْنٰی ۚ فَانْتَ لَهُ تَصَدٰی ۚ وَ مَا
 عَلَیْكَ اِلَّا الْاِیْزٰكٰی ۚ وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ یَسْعٰی ۚ وَ هُوَ یَخْشٰی ۚ
 (عبس: ۹ تا ۱۶)

[تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنو رہا ہو یا سوچتا تو کام آتا اس کا سمجھانا۔ وہ جو پروا نہیں کرتا، سو تو اسکی فکر میں ہے اور تجھ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ درست نہیں ہوتا۔ اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے]

اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی کی دو صفات خاص طور پر گنوائیں۔

(۱)..... وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ یَسْعٰی

[اور وہ تیز تیز چل کر محفل میں آیا۔]

(۲)..... اور دوسری خاص صفت یہ کہ

وَهُوَ يَنْحَسِي

[اور اس کے دل کے اندر خشیت بھی تھی]

معلوم ہوا کہ سچی طلب کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نیک محفلوں میں جائے تو ایک تو وہاں پہنچنے میں جلدی کرے اور تیز تیز چل کر جائے اور دوسرا یہ کہ دل میں خشیتِ الہی بھی ہو۔ ایسے بندے کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ روایت میں آیا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹھنے کے لئے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے..... جی ہاں! وہ سچی طلب لے کر آئے تھے، اس لئے اللہ رب العزت کے ہاں ان کا جو مقام تھا اس مقام کا کوئی عشر عشر حصہ بھی ان سردارانِ قریش کے لئے نہیں تھا۔

عزت کا پیمانہ

اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ دل میں خشیت ہو، طلب ہو اور اللہ کی محبت ہو۔ اگر اس کی ظاہری حالت غریبوں والی بھی ہو تو اس سے اللہ کے ہاں انسان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا..... آج پیمانے بدل گئے ہیں..... جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے لوگ ہیں۔ ان کی بڑی بڑی کوشیاں ہوتی ہوں تو کہتے ہیں کہ یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں دنیا کی بڑائی ہوتی ہے۔ دنیا والے ان کو بڑے لوگ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ بڑے لوگ نہیں ہوتے بلکہ وہ بڑے بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں، ان بے چاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ حساب کتاب دینے میں کتنا وقت لگے گا۔ جس بندے نے مالدار بندے کی عزت کی، اس کے مال کی وجہ سے اس کا تیسرا حصہ ایمان ضائع ہو گیا۔ اس

لئے ہماری نظر میں شریعت اور نیک اعمال کی عزت ہو اور ان لوگوں کی عزت ہو جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو۔

ایک اہم نکتہ

ایک نکتے کی بات ذرا سن لیجئے..... جتنے اعمال ہم لوگ کرتے ہیں وہ بخشوانے کے لئے کم نہیں ہیں، اخلاص کی کمی ان کو کم بنا دیتی ہے۔ اگر اخلاص کم نہ ہو تو ذکر فکر کرنے والے جتنے اعمال کر رہے ہیں یہ بخشوانے کے لئے کافی ہیں مگر چونکہ اخلاص نہیں ہوتا اور ریا کاری آجاتی ہے اس لئے بڑے اعمال ہونے کے باوجود ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے۔ مخلص بندہ اگر دو رکعت پڑھے گا تو اسے اتنا اجر ملے گا کہ غافل بندے کو ہزاروں رکعتیں پڑھنے پر بھی وہ اجر نہیں ملے گا۔ اس لئے حدیث پاک میں آیا ہے کہ متقی آدمی کی دو رکعت پر اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے دیتے ہیں جو غیر متقی آدمی کو ہزار رکعتوں پر بھی نہیں دیتے۔

ریا کاری کے باعث اجر سے محرومی

ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ طہ کی تلاوت کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک قرآن مجید ہے جس کے اوپر سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے خواب میں بھی سورۃ طہ پڑھی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے نامہ اعمال میں سورۃ طہ کی تلاوت کا اجر لکھ دیا گیا ہے۔ جب شوق شوق سے دیکھ رہے تھے تو ایک صفحہ پر دیکھا کہ درمیان میں سے کچھ آنتوں کی جگہ خالی ہے۔ وہ خواب میں ہی بڑے حیران ہوئے کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے۔ سوچتے رہے، سوچتے رہے، سوچتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور خواب میں ہی یہ خیال آیا کہ ہاں جب میں تلاوت کر رہا تھا تو اس وقت ان آیات کی تلاوت کرتے وقت ایک واقف بندہ

..... یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا میں نمی کتنی ہے۔

اسی طرح اگر سائنسی نقطہ نظر سے سوچا جائے تو یہ بات اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اعمال کو تو لا جا سکتا ہے۔

سائنسی نقطہ نظر سے وزن کے فارمولا میں ایک کمیت ہوتی ہے اور ایک کشش ثقل ہوتی ہے۔ فارمولا لکھتے ہوئے کمیت کو m لکھتے ہیں اور کشش ثقل کو g لکھتے ہیں۔ m اور g کو ضرب دیتے ہیں تو کسی بھی چیز کا وزن نکل آتا ہے..... چنانچہ اگر ایک آدمی زمین پر ہے تو اس کا وزن زمین کی کشش ثقل کے مطابق ہوگا۔ وہی آدمی اگر چاند پر چلا جائے تو چونکہ اس کی کشش ثقل وہاں کم ہوگی اس لئے اسی بندے کا وزن وہاں جا کر کم ہو جائے گا اور اگر وہی بندہ مریخ پر چلا جائے تو چونکہ وہاں کشش ثقل بہت زیادہ ہے اس لئے وہاں اسی بندے کا وزن کئی گنا بڑھ جائے گا..... بندہ وہی ہے مگر کشش بڑھنے سے وزن بڑھ جاتا ہے اور کشش کے گھٹنے سے وزن گھٹ جاتا ہے۔..... حتیٰ کہ اگر وہی بندہ خلا میں چلا جائے جہاں کشش ہے ہی نہیں تو کمیت ہونے کے باوجود وہاں اس بندے کا وزن نہیں رہے گا۔ چنانچہ جو لوگ خلا میں جاتے ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جسم کی کمیت ہونے کے باوجود وہاں کشش نہ ہونے کی وجہ سے بے وزن بن جاتے ہیں۔

آج سائنس نے اس بات کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ قیامت کے دن جس بندے کے اندر ایمان کی کشش ہوگی اس کے اعمال وزن والے ہوں گے اور جس بندے کے اندر ایمان کی کشش نہیں ہوگی، اگر اس نے پہاڑوں کے برابر بھی خیر کے اعمال کئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے عملوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اسی لئے قیامت کے دن کافروں کے عملوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کافروں کے عملوں کو پیش ہی نہیں کریں گے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ

فَلَا تَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (الکھف: ۱۰۵)

[قیامت کے دن ہم ان (کافروں کے) عملوں کا وزن ہی قائم نہیں کریں گے]

انکے اعمال قیامت کے دن پیش تو کئے جائیں گے کیونکہ انہوں نے کسی کی ہمدردی کی ہوگی..... کسی غریب کی مدد کی ہوگی..... کوئی ہاسپٹل بنوایا ہوگا..... لیکن ان کے اچھے کاموں کا وزن ہی نہیں ہوگا کیونکہ ان کے اچھے کاموں کے اندر ایمان کی کشش نہیں ہوگی۔ جب ان کے عملوں کی چیزیں زیادہ ہوں تو پھر اگر کیت ساری دنیا سے بھی زیادہ ہو جائے تو وزن پھر بھی زیرو ہی آئے گا۔

معلوم ہوا کہ ایمان اور اخلاص **Gravitational force** کی مانند ہیں۔ ہم ان کو جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں گے اسی قدر ہم زیادہ اجر پائیں گے اور جس قدر ایمان اور اخلاص میں کمی آتی جائے گی اسی قدر اجر میں بھی کمی ہوتی جائے گی۔

ہدایات برائے سالکین

ہمارے اس اجتماع کا بنیادی مقصد اپنی زندگی میں اخلاص کو بڑھانا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ اس بات پر غور کرے کہ کیا میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو رہا ہے یا دنیا کی واہ واہ کے لئے ہو رہا ہے۔ یہ ایک غم ہے جو آپ اپنے دلوں میں لے کر یہاں تشریف لائے ہیں۔

☆..... اس قیام کے دوران آپ دنیا کے تذکروں سے پرہیز کیجئے۔ اسی لئے تو دنیا کے **Topic** کو اتنا کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ دنیا اللہ رب العزت کو اتنی ناپسند ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ [دنیا ملعونہ ہے]

اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے آج تک اس کو خوشی کی نظر سے

نہیں دیکھا۔

☆..... شیطان کوشش کرے گا کہ آپ جس کمرے میں مل کر بیٹھے ہیں وہاں گئیں لگانا شروع کر دیں۔ اس لئے ادھر ادھر کی باتوں سے مکمل پرہیز کیجئے۔

☆..... ان دنوں میں اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھئے۔ وقوف قلبی اور رابطہ قلبی کے ساتھ اپنا وقت گزارئے۔ جیسے محکف آدمی اعتکاف میں بیٹھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے یہ وقت اللہ کے لئے وقف کر دیا ہے اسی طرح آپ بھی سمجھیں کہ آپ نے یہ چند دن اللہ کے لئے وقف کر دیئے ہیں۔ لہذا جب آپ مسجد میں ہوں تب بھی اللہ کی طرف توجہ رکھئے اور جب دارالعلوم میں کھانا کھانے کے لئے تشریف لے جائیں تب بھی اللہ کی طرف توجہ رکھئے۔ جب آپ یوں اللہ کے دھیان میں اپنا وقت گزاریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میرے اندر سے دنیا کی طلب گھٹ گئی ہے اور اللہ رب العزت کی طلب بڑھ گئی ہے۔

چنے ہوئے لوگوں کا مجمع

یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس محفل کی دعاؤں میں شمولیت کا موقع مل گیا ہے۔ بھی! اگرچہ ہم گناہ گار ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہونے کے قابل نہیں ہیں تو اس محفل میں اخلاص والے نیک لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کیا پتہ کہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں۔

☆ اس مجمع میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو روزانہ پانچ ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔

☆ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزانہ سات ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں۔

☆ ایسے بھی ہیں جو روزانہ دس ہزار بار لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔

☆ ایسے بھی ہیں جو روزانہ ایک بار پڑھتے ہیں۔

- ☆ ایسے بھی ہیں جو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں۔
- ☆ ایسے بھی ہیں جو روزانہ پندرہ پارے پڑھتے ہیں۔
- ☆ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا معمول ایک قرآن پاک روزانہ پڑھنے کا ہے
- ☆ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو خواب میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں بلکہ درجنوں مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو چکی ہے۔
- ☆ ہمارے ایک دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ میری زندگی کا کوئی ہفتہ بھی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیدار کے بغیر نہیں گزرتا۔
- ☆ ایک دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ گزشتہ گیارہ سالوں سے میری ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔

یہ باتیں یادہ جانتے ہیں یا ان کا شیخ جانتا ہے۔ الحمد للہ، یہ چتے ہوئے لوگوں کا مجمع ہے۔ یہ باتیں عام طور پر نہیں کی جاتیں لیکن آپ دوستوں کی ترغیب کے لئے کی ہیں تاکہ آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم کس مجمع کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ لہذا اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ اگر آپ کو معمولات میں کمی کا شکوہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں استقامت عطا فرمائیں اور اگر آپ اپنے آپ کو اپنے نفس کے سامنے عاجز محسوس کرتے ہیں تو تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد پیش کریں۔

آئیے عہد کریں

اجتماع کے یہ دن ایک سال کے بعد آتے ہیں جس کی قسمت میں ہوں، یہ تہجد عہد کا موقع ہوتا ہے۔ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں دیداری اختیار کریں گے اور ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کریں گے۔ تاکہ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں ملیں اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نظر میں بھی سرخرو ہو سکیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سب کی بخشش فرمادے۔ ہم عاجز مسکینوں کے ٹوٹے پھوٹے نیک عملوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی حقیقت سے آگاہ کر دے۔ (آمین ثم آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . (روم: ۲۱)

اسلام میں نکاح کا تصور

حضرت اقدس دامت برکاتہم کا یہ بیان چھٹے سالانہ نقشبندی
اجتماع پر 9 نومبر 2000ء مطابق شعبان 1421ھ کو بعد از نماز
عصر تقریب نکاح میں ہوا۔

اقتباس

سب انبیائے کرام علیہم السلام نکاح کرتے تھے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَذُرِّيَّةً (الرعد: ۲۸)

[اے میرے محبوب ﷺ! ہم نے آپ سے پہلے کتنے
ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیویاں اور
اولادیں بنائیں]

سوچنے کی بات ہے کہ جب انبیائے کرام نکاح
کرنے کے باوجود اللہ کے محبوب اور مقبول بندے تھے تو آج
ہم نکاح کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کے
راستے میں رکاوٹ کیوں پیش آئے گی۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

اسلام میں نکاح کا تصور

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
وَ مِنْ اَيْهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ
جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

وقال الله تعالى في مقام آخر

فَاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّيْ وَ ثَلَاثَ وَرُبْعَ ۝ فَاِنْ
خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (النساء: ۳)
سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ ۝
وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

اللہ تعالیٰ سے نفع حاصل کرنے کا طریقہ

دنیا میں ہر چیز سے فائدہ لینے کا ایک طریقہ ہے۔ پانی سے نفع لینے کا طریقہ
ور ہے اور آگ سے نفع لینے کا طریقہ اور ہے۔ ہوا سے نفع لینے کا طریقہ اور ہے اور
زمین سے نفع لینے کا طریقہ اور ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب
عزت کی ذات سے نفع حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھانے کے لئے

انبیائے کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ ہر ایک نے آکر یہ بات واضح کی کہ اے لوگو! اگر تم میری زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو گے تو تم اللہ رب العزت کی رحمتوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ گویا دین اسلام ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں دینے کے لئے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے،

اعزنا الله تعالى بهذا الدين

(اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی وجہ سے عزتیں عطا فرمائی ہیں)

یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان دین پر عمل کرے، دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بتائے، دین کی خاطر اس کا جینا مرنا ہو اور پھر اس کو دنیا و آخرت کی عزتیں نہ ملیں۔ سچے پروردگار نے اپنے سچے کلام میں فرمایا

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (منافقون: ۸)

[عزت اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے ہے]

تقویٰ کی برکات

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد دین کی شان و شوکت بن جائے۔ اگر ہمارے تمام اعمال شریعت و سنت اور تقویٰ و پرہیزگاری کے مطابق ہوں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا،

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (الاعراف: ۹۶)

[اور اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے تو ہم ان کے لئے

آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے]

جو بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو ہی متبرک بنا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں، اس کے وقت میں، اس کے کلام میں، اس کے رزق میں، صحت میں، اور دعاؤں میں، برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ جس طرف اس بندے کے قدم اٹھ جاتے ہیں اس طرف برکتیں آ جاتی ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنے خوشی اور غمی کے موقعوں پر شریعت و سنت کی پاسداری کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت میں سرفرو فرما دیں گے۔

آج کا عنوان

آج نکاح اور اس کے واجبات کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کیا جائے گا۔ یہ عنوان خاص طور پر نوجوانوں کے کام آئے گا۔ چونکہ جمعہ کے عام خطبات میں یہ مضمون چھیڑا نہیں جاتا اور نہ ہی نکاح کی محفلیں روزانہ ہوتی ہیں اس لئے اکثر لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا۔

ہر چیز جوڑا جوڑا

اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ کُلَّهَا (یس: ۳۶)

[پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنادیا]

شریعت کے مطابق میاں بیوی کا اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے ملنا اللہ کے ہاں عبادت کہلاتا ہے۔ دین اسلام کا حسن دیکھئے کہ انسان اپنی ہی خواہش پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔

اسلام دین فطرت ہے

دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے انسانوں کو مجرد زندگی گزارنے کا حکم

نہیں دیا۔ اس نے یہ تعلیمات نہیں دیں کہ تم جنگلوں اور غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دو بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً . (النساء: ۳)

[پس تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہوں، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، پس اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تم صرف ایک سے نکاح کرو]

شریعت نے مرد سے کہا کہ وہ عورت کے حقوق کا خیال رکھے اور عورت سے کہا کہ وہ مرد کے حقوق کا خیال رکھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ۲۲۸)

[عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے]

اگر میاں بیوی دونوں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں تو دنیا میں ہی جنت کے مزے آجائیں۔

اچھی بیوی کون ہے؟

اسلام ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا،

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا (سب سے بہتر کام وہ ہے جو اعتدال والا ہو)

جب انسان عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے تو وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اسلام ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ دین اسلام بیویوں کے انتخاب کے لئے بھی گائیڈ کرتا ہے۔

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

تَنكِحُ الْمَرَاةَ لِمَا لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَهُ يَدَاكَ

[عورت سے نکاح چار وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ مٹی آلودہ ہوں، تو دین کے ذریعے سے عزت پالے]

گویا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمادی کہ تم دین کی نسبت سے رشتہ ڈھونڈو۔

یاد رکھنا کہ جو لوگ دینداری کی نسبت کے علاوہ کسی اور وجہ سے نکاح کرتے ہیں وہ خوشگوار زندگی نہیں پاسکتے۔ کیونکہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں لیکن نیک سیرت عورت کو دیکھنے سے انسان کا دل خوش ہوتا۔ اگر ظاہر میں نقش نین اچھے بھی ہوں مگر عمل اچھے نہ ہوں تو زندگی کیسے اچھی گزرے گی۔ یہ ظاہری حسن تو **Just skin deep** ہے، یعنی اس حسن کی گہرائی فقط اتنی ہے جتنی جلد کی گہرائی ہے، اب خود سوچ لیں کہ جلد کی گہرائی کتنی ہے۔ ویسے بھی اگر نقش نین شروع میں دیدہ زیب ہوں بھی مگر وہی چہرہ بڑھاپے میں چھوہارے کی مانند نظر آتا ہے ان نقش نین کو کیا کرنا جو چند دنوں کے بعد چھوہارہ بن جائے۔ جوانی میں جس کی زلف فتنہ گر ہوتی ہے فوراً بڑھاپا آئے تو وہی زلف دم خرد (گدھے کی دم) بن جاتی ہے۔

انبیائے کرام کی چار سنتیں

ترمذی شریف کی روایت ہے کہ چار چیزیں سنن المرسلین ہیں۔

الحیاء والعطر والسواک والنکاح

[حیا، خوشبو، سواک، اور نکاح]

(۱) شرم و حیا:

دنیا میں جتنے بھی انبیاء گزرے وہ سب کے سب باحیا تھے۔ آج تو یورپ کی دنیا کہتی ہے کہ

Shiness is a sickness. (شرم ایک بیماری ہے)

گویا ان کے نزدیک جتنا کوئی بے شرم ہوگا اتنا ہی وہ محترم ہوگا۔ اسلام نے حیا کو عورت کا حسن قرار دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ

الحیاء شعبۃ من الایمان (حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے)

یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ اسلامی نظریات میں آج کے کفر کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ یاد رکھیں کہ جس معاشرے کی بنیاد ہی بے حیائی پر ہو وہاں مادر پدر آزاد پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر انسانیت نہیں بلکہ حیوانیت ہوتی ہے۔

(۲) خوشبو:

سب انبیائے کرام خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ دین اسلام نے شروع سے ہی پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمَطْهُرِیْنَ (توبہ: ۱۰۸)

(اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں)

آپ سکھوں کو دیکھ لیجئے۔ ان کے ہاں گندار ہنا ان کا دین ہے۔ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال بھی عمر بھر نہیں تراشتے۔ آپ خود سوچیں کہ ان بالوں میں کتنی ناپاکی اور گندگی ہوتی ہوگی۔ اسی طرح سادھو بھی نہادھو کر سترے نہیں رہتے۔ مگر دین اسلام کا حسن و جمال دیکھئے کہ کبھی تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔

الظہور شطر الايمان (طہارت ایمان کا حصہ ہے)
اور کبھی فرمایا،

الظہور نصف الايمان (طہارت آدھا ایمان ہے)
جو اپنے ظاہر کو پاک نہیں رکھ سکتا وہ بھلا اپنے باطن کو کیا پاک کر سکے گا۔

(۳) مسواک:

تمام انبیائے کرام مسواک کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے امت پر بوجھ کا ڈرنہ ہوتا تو میں مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے اور آکر سب سے پہلے آپ ﷺ مسواک فرمایا کرتے تھے تاکہ اہل خانہ کے پاس بیٹھیں تو منہ صاف ہو اور بونہ آئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے۔ وہ اس نماز سے ستر گناہ فضیلت رکھتی ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ کو صاف رکھا کر داس لئے کہ فرشتہ نماز کی تلاوت سنتا ہے حتیٰ کہ فرشتہ اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس قاری کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے۔ یہ فضیلت اس نماز کی لئے ہے جو مسواک کر کے نماز پڑھ رہا ہو۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے محبوب ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے منہ کو صاف رکھو تو تمہاری عورتیں زنا کا ارتکاب نہیں کیا کریں گی۔ یاد رکھنا کہ منہ کو صاف رکھنے کی دو سنتیں ہیں۔ منہ کو صاف رکھنا بھی سنت ہے اور منہ میں مسواک مارنا بھی سنت ہے۔ کئی لوگ لکڑی کی مسواک تو کر لیتے ہیں لیکن منہ صاف نہیں ہو پاتے۔ جس کی وجہ سے بدبو آرہی ہوتی ہے۔ اس سے ایک سنت پر تو عمل ہو جاتا

ہے لیکن منہ کو صاف رکھنے والی سنت حاصل نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں غذائیں سادہ تھیں۔ وہ جو بکی خشک روٹی کھاتے یا ستو پھاکتے اور پھر اوپر سے پانی یا دودھ استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے منہ کو صاف رکھنا آسان تھا۔ اس وقت نہ تو آج کے دور کی آئس کریم ہوتی تھی اور نہ ہی مرغن غذائیں۔ آج کے دور کی غذاؤں سے اپنے منہ کو صاف کرنے کے لئے اگر مسواک کام پورا نہیں کرتا تو آپ کو چاہیے کہ برش پر دوائی لگا کر استعمال کریں اور منہ کو بو سے صاف رکھیں۔ ہم نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے..... نہیں، ہرگز نہیں..... بلکہ منہ کو صاف کرنا شروع ہی سے ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے۔

آج کے دور میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ مسواک کرنا مردوں کے لئے سنت ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ مسواک کرنا مردوں کے لئے بھی سنت ہے اور عورتوں کے لئے بھی سنت ہے۔ عورتیں لکڑی کے مسواک کی جگہ کیکر، بادام یا اخروٹ کی چھال استعمال کریں ان کے لئے یہی سنت ہے۔ اخروٹ کی چھال دانتوں کو اتنا صاف کر دیتی ہے کہ دانت کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں، آپ اخروٹ کی سبز چھال لے کر منہ میں لگائیں تو ایک منٹ کے اندر اندر دانت ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے آپ کسی ڈینٹل کلینک سے دانت صاف کروا کر باہر نکل رہے ہوں۔

(۴) نکاح:

سب انبیاء کرام علیہم السلام نکاح کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
 وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً (الرعد: ۳۸)
 [اے میرے محبوب! ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیویاں اور اولادیں بنائیں]

سوچنے کی بات ہے کہ جب انبیائے کرام نکاح کرنے کے باوجود اللہ کے محبوب اور مقبول بندے تھے تو آج ہم نکاح کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کے راستے میں رکاوٹ کیوں پیش آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،

النِّكَاحُ نِصْفُ الْإِيمَانِ (نکاح آدھا ایمان ہے)

کنوارا آدمی جتنا بھی نیک اور متقی بن جائے، پھر بھی اس کا ایمان آدھا ہوگا۔ اسے کامل ایمان اس وقت نصیب ہوگا جب وہ نکاح کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہو جائے گا۔

آج دین سے دوری کا یہ حال ہے کہ کئی گھروں میں بچیاں دس دس پندرہ پندرہ سال سے جوان ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ان کے والدین کہتے کہ ان کا رشتہ باہر نہیں کرنا، یقین چاہیے کہ وہ اپنے لئے جہنم خرید رہے ہوتے ہیں۔

بزرگوں کی احتیاط

ہمارے حضرات ان معاملات میں بڑے محتاط ہوتے تھے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی حالات زندگی میں پڑھا ہے کہ اگر کسی کے ہاں جوان العمر بیٹی ہوتی اسے جوان ہوئے چند سال ہو چکے ہوتے اور اس کا والد اس کا نکاح نہ کر رہا ہوتا تو وہ اس کے کنویں سے پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے کہ اس نے جوان بیٹی کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ اور جس بندے نے قرض لیا ہوتا ہے اور وہ اراداً قرض نہیں لوٹا رہا ہوتا تھا تو ہمارے بزرگ اس کی دعوت قبول نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے گھر کا کھانا کھانا حلال نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے پاس پیسے اتنے فالتو ہیں کہ وہ دعوت کر رہا ہے تو وہ قرض ادا کیوں نہیں کرتا۔

نکاح ایسے بھی ہوتا تھا.....!!!

جہاں نکاح سستا ہوگا وہاں زنا مہنگا ہوگا اور جہاں نکاح مہنگا ہوگا وہاں زنا

سفا ہوگا۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس نے انسانی ضروریات کو جائز طریقے سے پوری کرنے کے لئے خود ترغیب دی ہے کہ تم اس معاملہ میں جلدی کرو۔ شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ تم نکاح کو عام اور سستا کرو تا کہ لوگ آسانی سے نکاح کر سکیں۔

صحابہ کرام کے دور میں تو نکاح کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کسی گھر میں نکاح کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اس گھر والے آپ کے واقف ہیں لہذا آپ میرا پیغام پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ انہوں نے جب ان کے گھر میں جا کر ان کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے بات سن کر کہا کہ ان سے نکاح کرنے کو تو ہمارا دل نہیں چاہتا البتہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر مجھ ہی سے کر دیں۔ گھر کے مرد وہیں موجود تھے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ گواہ بن گئے اور وہیں ان کا نکاح کر دیا گیا۔ جب وہ باہر نکلے تو اپنے دوست سے معذرت کرنے لگے کہ معاف کرنا، میں تو آپ کے نکاح کا پیغام لے کر گیا تھا، وہ انہوں نے قبول نہ کیا اور مجھے کہا کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے نکاح کر دیتے ہیں، چنانچہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کر لیتا ہوں۔ آپ اس سوچ میں تھے مگر میرا نکاح ہو گیا ہے، لہذا میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ جواب میں ان سے معذرت کرنے لگے کہ مجھے معاف کر دینا کہ اس نے آپ کی بیوی بننا تھا اور میں اپنے لیے کوششیں کرتا رہا۔ سبحان اللہ دوستی بھی قائم رہی اور نکاح بھی ہو گیا۔ اس وقت میں نکاح اس قدر سستا کیوں تھا؟ اسلئے کہ زنا بالکل ختم ہو چکا تھا۔

جوان بیٹیوں کو گھر میں بٹھانے کا وبال

ہم جب بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو گناہوں سے بچیں گے اور جب شریعت کو نظر انداز کریں گے تو گناہوں میں پھنسیں گے۔ آج حالت یہ

ہوتی ہے کہ ابھی بڑی بچی کے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا اور نیچے کی چار بچیاں جوان ہو چکی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ بڑی بچی کی منگنی کر کے سوچتے ہیں کہ پھر کچھ عرصہ بعد نکاح کر دیں گے اور پھر اگلے سال رخصتی کریں گے۔

یہ سوچ انتہائی غلط سوچ ہے۔ شریعت نے جہیز وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ اس نے تو موٹا سا اصول سمجھا دیا ہے کہ جب مناسب رشتہ مل جائے تو تم اپنے سر سے فرض ادا کر دو۔ یاد رکھیں کہ بچیاں جوان ہونے کے بعد جتنا عرصہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہیں۔ اور وہاں رہنے کے دوران اگر سوچ میں کوئی گناہ کریں یا ویسے گناہ کریں تو اس گناہ کا وبال ان کے والدین یا سرپرست پر پڑے گا۔ جنہوں نے ان کا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی۔

زنا اور نکاح میں فرق

زنا اور نکاح میں یہ فرق ہے کہ زنا فقط جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ جبکہ نکاح میں اس عورت کی ذمہ داری لیتی پڑتی ہے، اس کو مہر ادا کرنا پڑتا ہے اور عورت اس کی وراثت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا جہاں بے اعتمادی کی زندگی ہوتی ہے وہاں لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں کیونکہ وہ عورت کو ایک کھلونا سمجھ کر اس سے جنسی لذت حاصل کرتے ہیں۔

☆..... فرانس کا ایک انجینئر تھا..... میں اس کی بات سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ بات نقل کرنے کے قابل بھی نہیں ہے..... وہ کسی جگہ ایک فیکٹری کی Inspection (معاینے) کے لئے آیا۔ وہاں کے انجینئر لوگ اس سے مذاق کرتے تھے کہ تو ایک مہینے کے لئے آیا ہے، جب تو واپس جائے گا تو معلوم نہیں کہ تیری بیوی تیرے پاس ہوگی یا نہیں۔ وہ آگے سے کہتا تھا کہ فکر کی کوئی بات نہیں کیونکہ

Women are like buses if you miss one, take another one.

[عورتیں بسوں کی مانند ہوتی ہیں، اگر تم ایک سے رہ جاؤ تو پھر دوسری پر سوار ہو جاؤ]

استغفر اللہ، جس معاشرے میں پڑھے لکھے حضرات کا یہ حال ہو وہاں عورت کا کیا مقام ہوگا۔ یورپ کی عورت نے اپنا مقام خود گرایا ہے۔

☆..... ایک مرتبہ مجھے UK کا ایک لکھا پڑھا انجینئر ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے اسے بتا دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ جواب میں کہنے لگا، میں ابھی کتوارا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کی عمر تو زیادہ لگتی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں اس وقت میری عمر باون (۵۲) سال ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم انجینئر بھی ہو اور اتنی عمر بھی ہو چکی ہے، تو تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے جواب دیا،

If you can find milk in the market, there is no need to have a cow in your house.

[جب تمہیں بازار سے دودھ مل جاتا ہے تو پھر تمہیں گھر میں گائے پالنے کی ضرورت نہیں ہے]

اندازہ کریں کہ وہ کیسا بے شرمی اور بے حیائی کا معاشرہ ہوگا جہاں پڑھے لکھے لوگ ایسا ذہن رکھتے ہوں۔ اسلام نے اس بے حیائی کی پرزور مخالفت کی ہے اور اس کے مقابلے میں شرم و حیا والی زندگی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مجھے مدینہ کی کتواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر تم زندگی کا ساتھی چاہتے ہو تو تمہارا Long time desclon (لمبے

عرصے کے لئے فیصلہ) ہونا چاہئے۔ تھوڑی دیر کے ساتھی تو بڑے ملتے ہیں لیکن زندگی کے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔

نکاح کی تشہیر کا حکم

حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا،

أَفْشُوا النِّكَاحَ بَيْنَكُمْ (نکاح کی ایک دوسرے کے درمیان تشہیر کرو)

اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نکاح خفیہ طور پر نہیں ہوتا۔ جیسے کچھ لوگوں کے ہاں جمعہ ہوتا ہے۔ انہوں نے زنا کا دوسرا نام جمعہ رکھ دیا ہے۔ جہاں انسان نکاح کو چھپائے گا سمجھ لینا کہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح کا پڑھنا سنت ہے کیونکہ مسجد میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے کہ زیادہ لوگوں کو بلانا چاہیے تاکہ نکاح کی تشہیر ہو جائے۔ اس میں اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔

آج جائز موقعوں پر تو زیادہ لوگوں کو بلا تے نہیں اور برتھ ڈے منانے کے لئے مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں۔ جب جائز موقعوں پر لوگوں کو نہیں بلائیں گے تو ناجائز موقعوں پر ضرور بلائیں گے۔ اس لئے ایک اصول یاد رکھیے کہ شریعت نے جو جائز خوشیاں بنائی ہیں ان کو خوب خوشی خوشی مناؤ۔ اس لئے کہ اگر جائز خوشیوں کو ٹھیک طرح سے نہیں مناؤ گے تو پھر تم ناجائز خوشیوں کو منایا کرو گے۔

مسجد میں نکاح کا فائدہ

مسجد میں نکاح کرنے میں ایک خاص بات ہے۔ اگر گھروں میں نکاح ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی تو بیٹھا گھیس مار رہا ہوگا، کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا، کوئی تصویریں بنا رہا ہوگا گویا سب دل غافل ہوں گے۔ حالانکہ نکاح وہ وقت ہوتا ہے جب دو افراد کی نئی زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اس بنیاد میں ان کو

دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت زیادہ لوگوں کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی دعاؤں سے ان کے نئے گھر کی بنیاد پڑے۔ اس لئے گھر میں اور مسجد میں پڑھے گئے نکاح میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ یہاں مسجد میں جتنے بھی بیٹھے ہیں، باوضو ہیں اور سگریٹ پینے والے بھی اس وقت سگریٹ نہیں پی سکتے کیونکہ یہ مسجد ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور خیر کی بات ہو رہی ہے۔ جب نکاح پڑھیں گے اس وقت بھی دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف دل متوجہ ہوں گے۔ گویا بچے اور بچی کو آپ کی طرف سے دعاؤں کی شکل میں تحفہ مل رہا ہوگا۔

کیونکہ یہ اجتماع کا موقع ہے اس لئے بعض دوستوں نے نیک لوگوں کی دعائیں لینے کے لئے آج کے دن نکاح کو وانا پسند کیا ہے۔ اس مجمع میں سینکڑوں علماء موجود ہیں، کئی شیوخ الحدیث موجود ہیں، کئی مدارس کے مہتمم حضرات موجود ہیں، کئی حفاظ قرآن موجود ہیں کئی حفاظ حدیث موجود ہیں اور معلوم نہیں کہ کتنے تہجد گزار موجود ہیں۔ ان کو ان سب کی دعائیں نصیب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ان دوستوں پوری زندگی خوشیاں نصیب ہوں گی۔

نکاح کی تقریب میں قبول اسلام

ہم نے یورپ اور امریکہ میں دیکھا کہ نکاح کی محفل کو دیکھ کر کئی غیر مسلم عورتیں اور مرد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا۔ پھر نکاح پڑھا۔ جس لڑکی کا نکاح تھا وہ ایک دفتر میں کمپیوٹر انجینئر تھی، اس کے دفتر کی دوسری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں.... ان میں سے کئی غیر مسلم بھی تھیں۔ وہ نکاح کی اس تقریب سے متاثر ہو کر کہنے لگیں کہ اسلام میں تو بہت ہی احسن طریقے سے نکاح ہوتا ہے لہذا ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہیں۔

افراط و تفریط سے بچیں

چونکہ اسلام دین فطرت ہے اس لئے ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے تو وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں اور وہ دوسرے دن روتی ہوئی گھر آ جاتی ہیں۔ گویا نکاح کی جو اصل روح تھی وہ نکل چکی ہے اور مردہ باقی رہ گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو عمارت دین کی بنیاد پر بنے گی اللہ تعالیٰ اس کو پائیداری عطا فرمائیں گے۔

قابل افسوس واقعہ

لاہور میں ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہونی تھی۔ اس نے ایک سال پہلے اس کی پلاننگ شروع کر دی۔ کارڈ چھپوائے اور بڑے پیسے خرچ کئے۔ حتیٰ کہ اس نے یہاں تک انتظام کیا کہ اس نے بارات کے ساتھ آنے والے ہر مہمان کے گلے میں ایک ہزار روپے کا ہار ڈالا۔ اور وہ برتن جن میں باراتیوں نے کھانا کھایا وہ پتھر کے بنے ہوئے انمول قسم کے برتن تھے۔ وہ برتن اس نے خود بنوائے تھے۔ ان برتنوں پر اس نے اس شادی کی یادگار بھی لکھوائی تھی۔ ہر باراتی کو اجازت تھی کہ وہ اپنے استعمال میں آنے والے برتن یادگار کے طور پر لے جاسکتا ہے۔

ادھر لڑکے والوں نے بھی کیا خوب انتظام کیا کہ چڑیا گھر سے کراہیے پر ہاتھی لے آئے دولہا میاں اس ہاتھی پر بیٹھ کر سسرال پہنچا..... جیسے جنگ کرنے چلا ہو..... اس کے علاوہ بھی انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔

جب رخصتی ہو گئی اور مرد گھر واپس آئے تو عورتوں نے لڑکی کے والد سے پوچھا کہ حق مہر کتنا مقرر کیا ہے؟ اس وقت ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو نکاح پڑھا ہی

نہیں ہے۔ تب انہوں نے باراتیوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ بارات کو یہیں راستے میں ہی روک لیا جائے تاکہ بچی کا نکاح کرنے کے بعد اس نئے گھر میں داخل کیا جائے۔

اندازہ کیجئے کہ اتنے پیسے خرچ کئے اور اتنے عرصے سے پلاننگ کی۔ ہر چیز کا تو خیال رکھا لیکن اللہ کے حکم کا خیال نہ رکھا۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ دینداری کی بنیاد پر اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لیتے ہیں۔

دنیا میں جنت کے مزے

حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا۔ آپ ابتدائے جوانی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا۔ حتیٰ کہ آپ دورۂ حدیث کے درجے تک پہنچ گئے۔

آپ یہ واقعہ خود سنایا کرتے تھے کہ جب میرے سرکوان کے گھر والوں نے کہا کہ اب ہماری بچی جوان ہے اس لئے کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے نکاح کر دینا چاہیے۔ وہ پنجاب کے مدارس کے دورے پر نکلے تاکہ انہیں اپنی بچی کے لئے کوئی عالم فاضل نو جوان مل سکے۔ حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دورۂ حدیث کی کلاس کو دیکھا تو ان کی نگاہیں میرے اوپر ٹک گئیں۔ انہوں نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان ہو کر ہمارے پاس علم حاصل کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ شیخ الہند نے فرمایا نہیں، انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا، کیا یہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے استاد محترم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم شادی کرنے کے لئے تیار ہو؟ میں نے عرض کیا، حضرت! میں مسلمان ہوں اور

میرا سارا خاندان کافر ہے، اب مجھ اکیلے کو کون اپنی بیٹی دے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی آپ کو دے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، حضرت! میں اس سنت کو ضرور ادا کروں گا، میں اس کے ترک کا گناہ اپنے سر کیوں لوں۔ چنانچہ میرے سر صاحب نے فرما دیا کہ کل عصر کے بعد نکاح ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ کل میرا نکاح ہے۔ طلباء طلباء ہی ہوتے ہیں۔ وہ یہ سن کر مجھے سے محبت پیار کی باتیں کرنے لگ گئے۔ کافی دیر کے بعد ایک دوست نے کہا، جی آپ کے کپڑے بڑے میلے ہیں لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ کسی دوست سے ادھار کپڑے لے لیں اور وہ بہن کر نکاح کی تقریب میں جائیں۔ میں نے کہا کہ میری عزت نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتی، میں جو کچھ ہوں سو ہوں، میں ادھار تو نہیں مانگوں گا..... طلباء بھی منطقی ہوتے ہیں، آسانی سے نہیں چھوڑتے..... چنانچہ وہ کہنے لگے، اچھا اگر کسی دوسرے سے نہیں مانگنا تو آپ اسی سوٹ کر دھو کر دوبارہ پہن سکتے ہیں تاکہ صاف کپڑے ہوں۔ حضرت کے اپنے الفاظ ہیں کہ۔

”میرے بھیڑ کد پئے“ یعنی میری بد بختی آگئی کہ میں نے اپنے دوست کی بات مان لی چنانچہ میں نے اگلے دن دھوئی بانڈھی اور کپڑے دھو لیے۔ سردی کا موسم تھا اور اوپر سے آسمان ابرا آلود ہو گیا۔ عصر کا وقت آ گیا۔ میں نے مسجد کے ایک طرف کپڑے ہوا میں لہرانے شروع کر دیئے اور ساتھ ہی دعائیں بھی مانگنی شروع کر دیں کہ اے اللہ! ان کپڑوں کو خشک فرما دے۔ اور موسم کی خرابی کی وجہ سے کپڑے خشک ہونے پر نہیں آرہے تھے۔ حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی اور میں نے سردی کے موسم میں گیلے کپڑے پہنے اور مجمع میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن میرے سر کا دل بھی سونے کا بنا ہوا تھا کہ ان کی نظر ان چیزوں پر بالکل نہیں تھی، انہوں نے دیکھا کہ کل بھی یہی کپڑے تھے اور میلے تھے اور آج بھی وہی کپڑے ہیں اور گیلے ہیں اور اس کے پاس کوئی دوسرا جوڑا

بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہو گئی۔
 ابتداء کے چند دنوں میں میرے اوپر قاتے آئے کیونکہ میں طالب علم تھا اور
 تازہ تازہ پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ کمائی کا کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں تھا۔ کبھی کھانے کو مل جاتا
 اور کبھی نہ ملتا۔ کچھ عرصہ میری دلہن میرے گھر میں رہی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے
 والدین کے گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس سے پوچھا، بیٹی! تو نے اپنے نئے گھر کو کیسے
 پایا؟ فرماتے ہیں کہ میری بیوی تقیہ، نقیہ، نیک اور پاک عورت تھی، اس کی نظر میری
 دینداری پر تھی، چنانچہ اس نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا،
 ”اماں! میں تو سمجھتی تھی کہ مر کر جنت جائیں گے لیکن میں جیتی جاگتی جنت میں
 پہنچ گئی ہوں۔“

حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے۔

”میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا جب احمد علی احمد علی نہیں تھا اور
 آج تو احمد علی احمد علی ہے۔“

نیک بیوی کی چار نشانیاں

نبی علیہ السلام نے نیک بیوی کی چار نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔

(۱) پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو خاوند کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کے حکم کو
 مانے۔ ضد کرنے والی نہ ہو۔ ماں باپ کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے اور سمجھانا
 چاہیے کہ تم نے خاوند کے پاس جانا ہے تو ضد نہ کرنا۔ اپنی بات منوانے کی بجائے
 اس کی مان کر زندگی گزارنا، اسی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بات ضرور سمجھانی چاہیے
 کیونکہ میاں بیوی کا ناز و انداز کا ایک تعلق ہوتا ہے اور لڑکیاں اکثر چھوٹی چھوٹی بات
 پر ضد کرنے لگ جاتی ہیں۔

(۲) دوسری نشانی یہ ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو

جائے۔ کیا مطلب؟..... مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں صاف کپڑے پہنے۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ گھر سے نکلے تو فیشن ایبل کپڑے پہنے اور گھر میں بھنگن بنی پھرے۔ یہ بھی نہ ہو کہ گھر میں گندی سی بنی رہے اور اس کے بدن سے بو آ رہی ہو اور باہر نکلے تو خوشبو نہیں لگا کر نکلے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، ایک تو صاف ستھری بن کر رہے اور دوسرا اس کے چہرے پر خاوند کے لئے مسکراہٹ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت ہی موڈ بنائے رکھے۔

(۳)..... تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر خاوند کسی بات پر قسم کھالے تو تم ایسا کرو تو وہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔

(۴)..... چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب خاوند گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔

میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ

میاں بیوی کے قرب کے بارے میں شریعت مطہرہ نے حیران کن حد تک تصور پیش کیا ہے۔ کئی لوگ درمیان میں میاں بیوی میں جدائی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ ایک اصول یاد رکھنا کہ عام طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے آپس میں نہیں جھگڑتے بلکہ ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے جھگڑتے ہیں۔ وہ تیسرا یا تو لڑکے کے ماں باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں یا لڑکی کے ماں باپ اور بہن بھائی۔ اس لئے شریعت نے کہا کہ تم آپس میں ایک رہو اور کسی اور کی طرف دھیان ہی نہ دو۔

ایک علمی نکتہ

یہاں ایک علمی نکتہ طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ فقہانے لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے مابین کوئی رنجش ہو اور کوئی ان کی صلح

کرانے والا ہو تو اگر اس کو کوئی بات خلاف واقعہ بھی کہنی پڑے یعنی اس نیت سے جھوٹ بھی بولنا پڑے تاکہ میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ وہ ہوگا تو جھوٹ مگر اس کی نیت کی وجہ سے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق جوڑنے میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کو معاف کر دیا تو پھر ماں باپ کو کہاں اجازت ہے کہ وہ اپنے حق کی خاطر میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے پھریں۔ آج ساس کہتی ہے کہ میں ماں ہوں، چنانچہ بیٹے کو کہتی ہے کہ میری بات مانو اور اپنی بیوی کو سیدھا کر کے رکھو۔ تم ماں ہو، تمہاری اپنی ایک حیثیت ہے، مگر وہ بھی تو اس کی بیوی ہے اس لئے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ بیوی کو بیوی کے مقام پر رکھئے اور ماں کو ماں کے مقام رکھئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت لیلة القدر میں چند بندوں کی مغفرت نہیں کرتے، حالانکہ باقی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو دل میں کینہ رکھے اور دوسرا وہ بندہ جو میاں بیوی کے مابین جدائی ڈالنے والا ہو۔

گھریلو جھگڑوں کا آسان حل

شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں یہ طے کر لیں کہ خاوند لڑکی کے تمام رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی ذمہ داری قبول کرے اور لڑکی خاوند کے تمام رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لے۔ جب لڑکی اپنوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور لڑکا اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند سے نسبت رکھنے والے رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے اور خاوند لڑکی کے رشتہ داروں کو خوش رکھنے میں لگا رہے، اس طرح دونوں کی زندگی میں مشکلات ختم ہو جائیں گے۔

تحمل مزاجی کی ضرورت

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ میرے بندے پیار محبت کی زندگی گزاریں۔ میاں بیوی جتنی محبت بھری زندگی گزاریں گے اللہ رب العزت کے ہاں اجر پائیں گے۔ اس لئے میاں بیوی میں تحمل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تحمل مزاجی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی بات سنے یا دیکھے تو پہلے سوچے اور پھر کوئی قدم اٹھائے۔ اور آجکل یہ ہوتا ہے کہ پہلے قدم اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ اوہ میں نے برا کر لیا ہے۔ اس لئے آکر کہتے ہیں کہ حضرت! میں دوستوں میں تو بڑا خوش رہتا ہوں لیکن جب گھر جاتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہے کہ دماغ گرم رہتا ہے۔ اصل میں تیرے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے اور وہ تیرے دماغ کو گرم کر رہا ہوتا ہے۔

مسنون عمل کی برکت

ایک مرتبہ میرے پاس کوئی میاں بیوی آئے۔ وہ دونوں سلسلہ میں بیعت تھے۔ وہ دونوں تقریباً اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ دونوں پڑھے لکھے اور نوجوان تھے۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے ایسے ہی فیصلہ کر لیا حضرت صاحب کو کیا بتائیں گے..... یہ حضرت صاحب کو بتانا بھی کئی دفعہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے کچھ احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی نسبت کسی نہ کسی شریعت و سنت بزرگ کے ساتھ ہے وہ عقائد وغیرہ کے تمام فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

جتنے لوگ بھی دین بدلتے ہیں یا منکرین حدیث بنتے ہیں، وہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کہیں بھی بیعت کا تعلق نہیں ہوتا۔ گویا کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی

تعلق کا ہونا انسان کے لئے فتنوں سے بچاؤ کا سبب بن جاتا ہے۔

جب ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنی خوشی سے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لئے تیار ہیں تو اس عاجز کو بھی بات سمجھ آگئی کہ ان کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں مس انڈر شیڈنگ ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور درمیان میں کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ جب مجھے یہ بات سمجھ آگئی تو میں نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے فیصلے کو چھ مہینوں تک مؤخر کر لو اور ایک کام میں بتانا ہوں، اس پر عمل کرنے کا تم وعدہ کرو۔ انہوں نے کہا، جی ٹھیک ہے ہم وعدہ پورا کریں گے۔ میں نے خاوند سے وعدہ لیا کہ جب بھی وہ اپنے دفتر سے گھر آئے گا، وہ آتے ہی اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھے گا۔ اب یہ دیکھنے میں تو چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ سنت نبوی ﷺ بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔

اس عاجز نے دیکھا کہ یہ خاوند اصل میں بزنس کرتا ہے۔ اسی بزنس کے پریشر کی وجہ سے جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے اور بیوی بیچاری دو گھنٹے سے بھوکی بیٹھی ہوتی تھی اور وہ میاں صاحب دسترخواں پر آ کر بیٹھتے تو کھانے میں نقص نکالنا شروع کر دیتے۔ اب عورت کا دل ہوتا ہی کیا ہے۔ وہ تو اور زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔

جب میں نے کہا کہ گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونے کا وعدہ کرو تو اس نے کہا، حضرت! یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہے تو چھوٹی سی، مگر وعدہ کرو کہ پابندی کرو گے۔ چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا۔ چھ مہینے تو بڑی بات تھی صرف ایک مہینے کے بعد ان کا فون آیا کہ حضرت! ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ساری زندگی اکٹھے گزاریں گے کیونکہ ہمیں خوشیوں بھری زندگی نصیب ہوگئی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب خاوند گھر آ کر بیوی کو مسکرا کر دیکھتا تھا تو مسکراہٹوں کے دروازے کھل

جاتے تھے..... یہ رہنمائی ہوتی ہے جو شیخ نے دینی ہوتی ہے کہ تمہاری کونسی عادت ہے تمہارے لئے مصیبت کا سبب بنی ہوئی ہے۔

پیار محبت کی باتیں

بیوی کی خوش طبعی کے لئے اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نو عورتوں کو واقعات سنائے۔ یہ نو عورتیں آپس میں مل کر بیٹھیں اور اپنے اپنے خاوندوں کی صفات بتانا شروع کیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کے بارے میں یہ کہا، دوسری نے یہ کہا، تیسری نے یہ کہا..... جب آپ ﷺ نے نو کی نو عورتوں کی باتیں بتادیں تو فرمایا کہ جس عورت کا خاوند سب سے بہترین صفات کا حامل تھا میں اس سے بھی تمہارے لئے زیادہ اچھا ہوں..... کیا آپ بھی نے اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لئے ایسی باتیں کی ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خوش رکھنا اس کا فرض ہے اور اسے تنگ کرنا ہمارا فرض ہے۔

بیٹیوں کو تین سورتوں کی تعلیم

ایک بات یاد رکھیں کہ ماں باپ اپنی لڑکی کو گھر میں سورۃ الحجرات، سورۃ النور اور سورۃ النساء کا ترجمہ لازمی پڑھانے کی کوشش کریں کیونکہ سورۃ الحجرات میں اخلاق کو سنوارنے کے لئے تعلیمات ہیں، سورۃ النور میں حیا اور پاکدامنی کی زندگی گزارنے کی باتیں ہیں اور سورۃ النساء میں میراث اور بچوں کے بارے میں مسائل موجود ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب گھر میں باپ اپنی بیٹیوں کو نیکی کی تعلیم نہیں دیتا اس گھر کے مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

اعتدال کی زندگی بسر کریں

میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اعتدال کی زندگی بسر کریں۔ کئی لوگ تو اپنے مال کو عورت کو تنگ کرنے کے لئے انشرومنٹ (اوزار) کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کو ایسا تنگ کر کے رکھتے ہیں کہ وہ بیچاریاں خوشی کا سانس بھی نہیں لے سکتیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ نہ تو ان کو اتنا آزاد چھوڑ دو کہ وہ گناہوں کی مرکب ہوں اور نہ ہی ان کو اتنا تنگ کر دو کہ وہ اپنی موت کی تمنائیں کریں۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ مسلمان گھرانوں کی ننانوے فیصد لڑکیاں جب ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو وہ اپنے اگلے گھر کو آباد کرنے کی نیت سے جاتی ہیں۔ اب خاوند پر منحصر ہے کہ اگر اس نے اسے اچھی طرح پیٹل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا اور اگر اچھی طرح پیٹل نہ کیا تو گھر برباد ہو جائے گا۔

عورتوں میں حوروں والی صفات

حضرت اقدس تھانویؒ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات عورتوں میں حوروں کی کئی صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے دو ایسی ہیں جو دنیا کی عورتوں میں بھی بعض اوقات پائی جاتی ہیں۔

۱۔ پہلی صفت ہے عسب یعنی وہ خاوندوں سے محبت کرنے والیاں ہیں۔ مسلمان بچیاں بھی جب گھر سے چلتی ہیں تو وہ اپنے دلوں میں اپنے خاوند کی محبت بھی لے کر چلتی ہیں۔ وہ خاوند پر دل نچھاور کرنے والیاں اور جان فدا کرنے والیاں ہوتی ہیں۔

۲۔ دوسری صفت ہے نصرت الطرف یعنی وہ غیروں سے اپنی نکاحی ہٹانے والیاں ہیں۔ مردوں کی نکاحی عورتوں کی نسبت زیادہ ناپاک ہوتی ہیں۔

عورتیں ایسی نہیں ہوتیں کہ جس کو دیکھا دل میں طمع کیا کہ یہ میرے پاس ہو۔ یہ مردوں کی گندی عادت ہوتی ہے کہ جس عورت کو بھی دیکھیں، خواہ وہ کالی ہو، گوری ہو، نیلی ہو یا پہلی ہو، اسی کے بارے میں تصور کر لیتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔

منفی سوچ سے بچیں

منفی سوچ سے بچیں۔ ذرا ذرا سی بات پر منفی سوچ انسان کو بڑا نقصان دیتی ہے۔ پھر انسان شکی مزاج بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس کو شک کا مرض ہوتا ہے اس کا دین بھی خطرے میں ہوتا ہے اور دنیا بھی۔ اس شک کی تو یہاں تک اہتہا ہے کہ اگر بچی اپنے سگے بھائی سے بھی مسکرا کر بات کر لیتی ہے تو اس پر بھی اس کو شک ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ اس شک کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لئے اس شک سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔

پیار کا نام

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبد اللہ تھی۔ اللہ کے محبوب ﷺ ان کو نہ تو نام لے کر پکارتے تھے اور نہ ہی کنیت سے، بلکہ پیار سے حمیرا فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کا کوئی ایسا نام پسند کرے جو بیوی کو بھی پسند ہو تو یہ ایک **Token of love** (محبت کا سرٹیفکیٹ) ہوتا ہے۔ اگر اس نام سے اس کو پکارے گا تو پھر اس بیوی کو محبت کا ایک پیغام بھی مل رہا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔

غلط فہمی دور کر لیا کریں

اگر کسی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو جب تک وہ غلط فہمی دور نہ ہو جائے

اس وقت تک آپ اطمینان نہ پائیں۔ ایک دوسرے کو سمجھالینے میں اور منالینے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کسی بات پر بھی ضد نہ کیا کریں۔ اگر بیوی کسی وقت کوئی بات نہیں مان رہی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کسی دوسرے موقع پر معافی بھی مانگ رہی ہوگی اور بات بھی مان رہی ہوگی۔ اسی طرح بیوی یہ سوچے کہ اگر ایک وقت خاوند کوئی بات نہیں مان رہا تو میں اب ضد اور جھگڑا نہ کروں، بلکہ کسی دوسرے موقع پر وہ میری بات بھی مان لے گا اور مجھے اور زیادہ پیارا اور محبت بھی دے گا۔

جھوٹ سے بچیں

جھوٹ کی زندگی سے بچیں۔ جب خاوند اپنی بیوی سے اپنی زندگی کو چھپانا شروع کر دیتا ہے یا بیوی اپنے خاوند سے اپنی زندگی کو چھپانا شروع کر دیتی ہے تو سمجھ لو کہ گھر کی بربادی کی واضح نشانی موجود ہے۔ کیونکہ یہ تعلق تو بنایا ہی اسی لئے گیا ہے کہ خاوند جب ساری دنیا کا ستایا ہوا گھر آ کر پہنچے تو اپنے دل کا سب کچھ اپنی بیوی کے سامنے کھول دے۔ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ جب اللہ کے محبوب ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ ﷺ پر اس کا بوجھ تھا۔ آپ ﷺ نے سب سے پہلے گھر میں آ کر فرمایا۔

حَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي زَمَلُونِي زَمَلُونِي

(مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ مجھے کبل اوڑھا دو، مجھے کبل اوڑھا دو)

اور آگے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلیاں دینے لگیں کہ

والله انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم

وتقرىء الضيف وتعين على نواب الحق

[اللہ کی قسم! آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بننے

والے ہیں، جن کے پاس کچھ نہ ہو آپ ان کو کما کر دینے والے ہیں۔ آپ

مہمان توازی کرنے والے ہیں اور آپ اچھی باتوں پر مدد کرنے والے ہیں]

اچھی بیوی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کو تسلیاں دے اور اس کے غم کو دور کر دے اور اگر بیوی کسی وجہ سے پریشان ہو جائے تو اچھے خاوند کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کے غم کو دور کرے۔ بعض اوقات دو ٹیٹھے بول بھی بندے کا غم دور کر دیتے ہیں۔ ان دو لفظوں میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی چینی مل کر بھی اتنی مٹھاس پیدا نہیں کر سکتی۔

بیوی کے ساتھ دوڑ لگانا

ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک جہاد پر تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے ساتھ تھیں۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا،

”حمیرا! چلو دوڑ لگائیں“

اب بتائیے کہ اللہ کے محبوب ﷺ کے دل میں اللہ رب العزت کا کتنا خوف تھا لیکن اپنی اہلیہ کو دوڑ لگانے کا فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیوی سے محبت و پیار کی بات کرنا نہ تو خشیت الہی کے منافی نہیں ہے۔ اور نہ ہی معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔

جب دوڑ لگائی تو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خود آگے نکلنے کا موقع دے دیا۔ جب وہ آگے نکل گئیں تو بہت خوش ہوئیں۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔

کافی عرصے کے بعد پھر ایک مرتبہ اسی طرح سفر پر نکلے اور ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، حمیرا! چلو دوڑ لگائیں۔ اب کی بار جب دوڑے تو اب نبی علیہ السلام آگے نکل گئے۔ آپ ﷺ مسکرائے اور فرمایا،

حمیرا اٹلک بتلک

(پہلے تو جیت گئی تھی اب میں جیت گیا ہوں)

دوڑ لگانے کا مقصد بیوی کا دل خوش کرنا تھا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس نے اس سنت پر عمل کیا ہے تو آپ میں سے تھوڑے ہی اٹھیں گے۔ حلوے کھانے والی سنتیں یاد ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ بڑا پوچھا جاتا ہے کہ حلوہ پہلے کھانا سنت ہے یا بعد میں کھانا سنت ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بندہ انہیں کہے کہ میاں! پہلے بھی کھاؤ اور بعد میں بھی کھاؤ، مگر جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ۔

یہ باتیں اس لئے کر دی ہیں کہ ممکن ہے کہ آج کی ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کسی گھر کے جھگڑوں کو دور کر دے اور میاں بیوی کو پیار محبت کی زندگی نصیب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس عاجز کی اسی وجہ سے مغفرت ہو جائے۔ لہذا

”میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔“

اللہ رب العزت ہم سب کو محبتوں بھری خوشگوار زندگی نصیب فرما دے اور جب بچوں کو آج نکاح کے ذریعے زندگی کا ساتھی بنایا جا رہا ہے اللہ رب العزت ان کو قابل رشک اور کامیاب زندگی نصیب فرما دے۔ (آمین۔ بحرۃ سید المرسلین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین .

☆☆☆☆☆



وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَجْعَلَنَّا حُزْرًا. (لقمن: ٦)

تباہ کن موسیقی

حضرت اقدس کا یہ بیان 19 مارچ 2004ء کو بروز جمعہ
الہبارک بعد نماز فجر جامع مسجد گلشت کالونی ملتان میں ہوا۔

اقتباس

جب سائنسدانوں کے سامنے اس بات کی حقیقت کھلی کہ فلاں فلاں طریقے سے انسان کا دماغ انفارمیشنز قبول کرتا ہے تو انہوں نے اس بات پر محنت کی کہ ہم دوسرے بندے کے دماغ میں اپنی مرضی کی بات کیسے ڈالیں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ چنانچہ اس پر بہت زیادہ کام کیا گیا۔ بالخصوص کفار نے اس پر بڑا کام کیا کہ ہم کس طرح دنیا کے لوگوں کو سوچ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ دن رات کی ریسرچ کے بعد ان کو اس کا بہترین طریقہ ”میوزک“ کی شکل میں نظر آیا۔ گویا انہیں مسلمانوں کی دینی غیرت کا جنازہ نکالنے کا یہ سب سے بڑا ہتھیار نظر آیا۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

تباہ کن مویتقی

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اضْطَفَى أَمَا بَعْدُ!
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْتَرَى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 وَ يُتَخَلَّفَهَا مُزَوَّاطًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

جیسے جذبات ویسے خیالات

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے دو نعمتیں
 خاص ہیں۔ ایک قلب اور ایک عقل یعنی دماغ۔ قلب عشق کا برتن ہے اور عقل علم کا
 برتن ہے۔ قلب جذبات کا گھر ہے اور عقل خیالات کا گھر ہے۔ اچھے یا برے
 جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں اور اچھے یا برے خیالات دماغ میں پیدا ہوتے
 ہیں۔ عام دستور یہ ہے کہ جیسے جذبات ہوں گے ویسے ہی خیالات ہوں گے۔ اگر
 اللہ کی محبت کا جذبہ دل میں موجود ہوگا تو خیالات میں بھی یکسوئی اور پاکیزگی ہوگی
 اور وہ تعمیری اور خیر خواہی والے ہوں گے، ہر وقت کی سوچ پاک ہوگی، ہر وقت نیکی

اور نیک لوگوں کے خیالات آئیں گے اور نیک اعمال کرنے کی تمنا دل میں پیدا ہوگی بلکہ نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا ہر وقت شوق رہے گا اور اگر جذبات کے اندر دنیا کی محبت غالب ہوگی تو خیالات بھی گندے ہوں گے، اسے شیطانی، شہوانی اور نفسانی سوچیں آئیں گی۔ پھر انسان کے اندر حرص بھی ہوگی، طمع بھی ہوگا، بدنظری بھی ہوگی اور شہوت بھی ہوگی اور انسان خود محسوس کرے گا کہ میری سوچ پاک نہیں ہے۔ گویا اگر ایک آدمی کی سوچ اچھی ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ اچھا انسان بن جائے گا اور اگر سوچ بری ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ جب کوئی نیک انسان برا بنتا ہے تو وہ ایک ہی دن میں برا نہیں بن جاتا بلکہ اس کی سوچ ظاہر داری میں نیکی کے رنگ میں پہلے بری ہو چکی ہوتی ہے اور اس ظاہر داری میں اس کا وقت گزرتا رہتا ہے۔ مگر اندر کا انسان بدل چکا ہوتا ہے۔

دل کی مرکزی حیثیت

قلب کو انسانی جسم میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسی لئے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي آدَمَ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

[بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لومڑا ہے، جب وہ سنورتا ہے تو پورا انسان سنور جاتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے، جان لو کہ وہ (انسان کا) دل ہے]

عشق کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ اسی لئے انبیائے کرام نے دنیا میں آکر قلب کو ہی اپنی محنت کا میدان بنایا، کیونکہ اگر قلب سنور گیا تو شاخیں یعنی باقی اعضاء خود بخود سنور جائیں گے۔

عقل کی اہمیت

عقل اور دماغ کے بارے میں انسان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذرا مشکل سا موضوع ہے۔ چونکہ مجھے پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں اس لئے دل میں بات آرہی ہے کہ میں ذرا اس عنوان کو کھولوں۔

حدیث پاک میں آیا ہے:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ

[اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا]

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ

[اس میں عقل والوں کے لئے نصیحت کی باتیں ہیں]

ایک اور مقام پر فرمایا:

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

[کیا تم عقل نہیں رکھتے؟]

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں سوال پوچھنے کے لئے منکر نکیر آئیں گے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ﷺ! کیا وہاں عقل سلامت ہوگی یا نہیں؟ فرمایا، ہاں عقل سلامت ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کچھ پروا نہیں ہے۔

عقل کیا چیز ہے؟

عقل کیا چیز ہے؟..... عقل سوچنے کی ایک مشین ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں میٹھ کو پروسیسر ہوتا ہے۔ پروگرام میں کوئی بھی Equation ہو تو وہ اس کی طرف بھیج دی

جاتی ہے اور وہ اس Equation کو حل کر کے واپس بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دماغ کو کوئی خیال دے دیں تو وہ اس کے تانے بانے جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر خیال پر پہرہ بٹھانا آپ کا کام ہے۔ اسی طرح مؤمن اپنے دماغ کے اوپر دل کا پہرہ بٹھاتا ہے، جو اچھے خیالات ہوں ان کو دماغ میں جانے دیتا ہے اور جو برے ہوں ان کو جھٹک دیتا ہے۔

خیالات کا خود کار نظام

اللہ تعالیٰ نے خیالات کا نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ از خود انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس میں انسانیت کے لئے بہت فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے سبزی لینے کے لئے چلے اور راستے میں آپ کو آپ کا پرانا دوست مل گیا، وہ سکول کے زمانے کا دوست تھا، اب بیس سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوئے اور باتیں کرنے لگے۔ اب ان باتوں کے دوران تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا رہے گا کہ آپ کو سبزی لینے ہے، آپ کو سبزی لینے ہے۔ اگر وہ سبزی لینے کا خیال آپ کے ذہن سے نکل جاتا تو آپ گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، گپیں مارتے، چائے پیتے اور جب شام کو گھر جا۔ تے تو تب پتہ چلتا کہ اوہ میں تو گھر سے سبزی لینے نکلا تھا اور میں نے کیا کر دیا۔ انسان کے فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خود کار نظام بنا دیا جس کی وجہ سے اس کا دماغ اسے بار بار سنگٹل دے رہا ہوتا ہے۔

جس طرح اچھے خیالات آتے ہیں اسی طرح برے خیالات بھی آتے رہتے ہیں۔ شریعتِ مطہرہ نے ایک بہت ہی خوبصورت اصول بتا دیا کہ برے خیال کا آنا برا نہیں ہے کیونکہ اس پر پکڑ نہیں ہے بلکہ برے خیال کو خود ارادے کے ساتھ لانا، دل

میں جمانا اور اس سے لطف اندوز ہونا برا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے خیال کو ذہن میں لائیں اور برے خیال کو ذہن سے دور کریں۔ اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چوڑا ہے پر کھڑے کسی پولیس والے کی ہوتی ہے۔ کہیں سے ٹرک آرہا ہوتا ہے..... کہیں سے کار آرہی ہوتی ہے..... کہیں سے گدھا گاڑی آرہی ہوتی ہے..... مگر وہ سب ٹریفک کو چلنا کرتا ہے اور وہ ہجوم نہیں لگنے دیتا۔ اس کا فرض منصبی یہی ہوتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس شاہراہ کو آنے جانے والوں کے لئے کھلا رکھو۔ اگر ٹریفک جام ہو جائے تو اس پولیس والے کی وردی اتار لی جاتی ہے۔ مومن بندے کا دماغ بھی اسی طرح ایک چوڑا ہے کی مانند ہے، اس میں بھی اچھے برے ہر طرح کے خیالات آتے ہیں۔ کبھی اچھے خیال کی بس آگئی اور کبھی برے خیال کی گدھا گاڑی آگئی۔ مومن کو چاہیے کہ جب برا خیال آئے تو اس کو ذہن سے نکال دے اور چلنا کرے، اگر اس کے ذہن میں برے خیالات کی ٹریفک پھنس گئی تو اب اس کو پکڑیں گے کہ تو نے اپنا فرض پورا نہیں کیا۔

عقل کی جولانیاں

عقل کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات میں امتیازی مقام حاصل ہے۔ مثال کے طور پر.....

(۱)..... یوں دیکھنے کو تو ہاتھی سب سے زیادہ طاقت ور ہے لیکن انسان عقل کے زور پر ہاتھی کو بھی اپنا ماتحت بنا لیتا ہے۔

(۲)..... شیر جرات، شجاعت اور طاقت میں انسان سے بہت آگے ہے مگر عقل کی بنیاد پر انسان اس کو بھی لگام ڈال دیتا ہے۔

(۳)..... اس عقل کو استعمال کر کے انسان نے ہوا میں اڑنا سیکھا، ورنہ کہاں انسان اور کہاں پرواز۔ پرندہ تو ہوا میں اڑتے ہوئے ہلتا بھی ہے مگر جہاز ہلتا بھی نظر نہیں

آتا۔ جیسے کوئی چیز ہوا کے اندر تیر رہی ہوتی ہے اسی طرح ہوائی جہاز بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جہاز میں بیٹھا ڈرائنگ بنا رہا ہو تو اس کو جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ عقل کی جولانیاں ہیں۔

(۳)..... اسی عقل کی وجہ سے انسان نے سمندر کی گہرائیوں کو ناپا۔ جتنے زمین سے اوپر ہمیں عجائبات نظر آتے ہیں سائنسدانوں کی دریافت کے مطابق اس سے زیادہ عجائبات زمین کے نیچے ہیں۔ اگر کسی کو سمندر میں جانے کا موقع ملے تو وہ دیکھ لے گا کہ وہاں تو دنیا ہی انوکھی ہے۔ تو یہ عقل ہی ہے کہ جس نے انسان کو دنیا میں یہ سب مادی نعمتیں دیں۔۔۔۔۔ یہ عقل دنیا کی ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (لقمن: ۲۰)

[اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ ہم نے تمہارے لئے مسخر کر دیا]

کیا مطلب؟..... مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دی۔

(۵)..... شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور فقط گوشت کھاتا ہے، ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے اور فقط سبزہ کھاتا ہے۔ شیر نے گوشت بھی کھایا تو آج تک اس نے کبھی بھون کر نہیں کھایا بلکہ کچا چبایا، اس کو نہ نمک کا پتہ ہے اور نہ مرچ کا پتہ ہے۔ اور حضرت انسان کو دیکھو کہ ماشاء اللہ گوشت بھی کھاتا ہے تو کیا کیا..... جی یہ سیخ کباب ہیں..... جی یہ تنکے بنے ہوئے ہیں..... جی یہ سوپ بنا ہوا ہے..... جی یہ قیمہ بنا ہوا ہے..... جی یہ سبزی میں گوشت ملایا ہوا ہے..... جی ہم نے یہ پوری ران بھونی ہوئی ہے..... جی یہ مندی ہے۔ واہ میرے مولا!..... مندی بھی کیا چیز ہوتی ہے.....!!!

افغانستان کے لوگ پورے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اندر سے صفائی کر کے اس کو کھال کے اندر ڈال کر انگاروں کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اس کو زمین کے اندر

دبا دیتے ہیں یا تنور کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی شان کہ نمک اور مرچ اس کے اندر تک رچ جاتی ہے اور یہ ایسے گلتا ہے کہ بندہ اس کو ہاتھ سے آرام سے توڑ کر کھا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ دعوت کی گئی تو میزبان نے ایک گائے ذبح کی اور کھال اتار کر اور اس کے پیٹ کی پوری صفائی کر کے اس کو اتنے بڑے Oven (چولہے) کے اندر ڈال دیا۔ وہ گائے اس کے اندر گھومتی رہی اور پکتی رہی۔ تب پوری گائے بیک گئی تو اس کو اسی طرح لا کر انہوں نے سب کے سامنے لٹکا دیا۔ انہوں نے پیچھے سے آگے تک ایک موٹا سر یا ڈالا اور اس سرے کے اوپر گائے کو لٹکا دیا تاکہ آدمی جا کر جہاں سے چاہے کاٹے اور کھائے۔ چنانچہ کوئی ران کا گوشت کاٹ کر لا رہا تھا اور کوئی شانے کا..... اللہ تیری شان..... پوری گائے کو اس طرح پکا تا فقط انسان ہی کا کام ہے۔

(۶)..... انسان کو عقل کی وجہ سے نئی نئی چیزیں سوجھتی رہتی ہیں۔ آخر انسان نے بارہ مصالحوں بنا ہی دیئے نا..... کیا چٹنیاں..... کیا کچپ..... جی یہ اچار ہے۔ شیر بے چارے کو اچار کا کیا پتہ۔ اس نے تو کیا اس کے باپ نے بھی یہ نام نہیں سنا ہوگا۔

انسانی دماغ اور جدید سائنسی تحقیق

آج کے زمانے میں سائنسی تحقیقات بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹروں نے انسان کے دماغ کو سمجھنے کے لئے دن رات ایک کر دیا ہے اور اس کی بہت ساری تفصیلات کو سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ آج میڈیکل کے اندر دماغ کے بارے میں اتنی بڑی تفصیلات پڑھاتے ہیں کہ پڑھنے والے تھک جاتے ہیں۔ میں آپ کو ذرا دماغ کی بناوٹ اور اس کے فنکشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔

☆..... ہمارے جسم کے سیل اور چیز ہیں اور دماغ کے سیل اور چیز ہیں۔ اگر جسم کا

سیل Demage (خراب) ہو جائے تو اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود بخود دوبارہ فعال بن جاتا ہے لیکن اگر دماغ کا سیل Demage (خراب) ہو جائے تو اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ کام کر سکے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔

☆..... جسم کے سیل کی غذا پروٹین ہے اور دماغ کے سیل کی غذا کاربوہائیڈریٹس ہیں
☆ عورتیں بعض اوقات میٹھا انڈہ بنا لیتی ہیں۔ جس طرح وہ نرم سی چیز بنتی ہے، اسی طرح دماغ کا سیل بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ اس کے اوپر ایک جھلی چڑھی ہوتی ہے جس میں سارے دماغ کے ان ذروں کو اکٹھا رکھا ہوتا ہے۔ اگر وہ جھلی نہ ہو تو یہ سب جدا جدا ہو جائیں۔ یہ اربوں اور کھربوں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔

☆..... انسان کے سر کی کھوپڑی میں دماغ کی بہت ہی زیادہ تھیں ہیں۔ اس کی لمبائی کو لمبا کرنے کے لئے جیسے صف لپیٹتے ہیں تو لمبی ساری صف تھوڑی سی جگہ پر آجاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی Memory میموری (یادداشت) کو بڑا کرنے کے لئے اور Space سپیس (جگہ) زیادہ دینے کے لئے اس کی تہہ در تہہ بنا دی ہے اور اس دماغ کو سر کی چھوٹی سی جگہ میں سما دیا ہے۔ چونکہ سوچنے کے لئے اور یادداشت کے لئے بڑی سطح کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اگر یوں ہی ایک سطح ہوتی تو میرا خیال ہے کہ انسان کا سر ہی کہیں منگے سے بھی بڑا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کے تھیں بنا دیں۔ یعنی ایک تہہ جاتی ہے اور پھر ایک تہہ آتی ہے، پھر ایک تہہ جاتی ہے اور ایک تہہ آتی ہے۔ گویا ایریا بڑھانے کے لئے انسان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے تہہ در تہہ بنا دیا۔

☆..... اب تو انسان کے دماغ کے حصے معلوم کر لئے گئے کہ کس حصے کا تعلق کس عضو

کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی یادداشت کا تعلق انسان کے دماغ کے پچھلے حصے سے ہے۔ اس لئے اگر سر کے پچھلے حصے پر چوٹ لگے یا کوئی زور سے تھپتر لگا دے یا ڈنڈا مار دے تو بعض لوگوں کی بینائی زائل ہو جاتی ہے، حالانکہ آنکھ ٹھیک ہوتی ہے مگر دیکھ نہیں سکتی۔

☆..... ہمارا جولیفٹ سائڈ کا کنٹرول ہے اس کا تعلق دماغ کی رائٹ سائڈ سے ہے اور جو رائٹ سائڈ کا کنٹرول ہے اس کا تعلق دماغ کی لیفٹ سائڈ سے ہے..... اللہ کی شان..... جس کو دائیں طرف فالج ہوتا ہے اس کے دماغ کی بائیں طرف میں خرابی ہوتی ہے اور جس کے بائیں طرف فالج ہوا ہو اس کے دماغ کی دائیں طرف میں خرابی ہوتی ہے۔

☆..... انسان کی سوچ کا ایک بنیادی مرکز ماتھے کے پیچھے فرنٹ سائڈ پر ہے۔ چونکہ سارے خیالات کا تعلق وہاں آکر بنتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اتھے کو سجدے میں جھکانے کا حکم فرمایا..... واہ میرے مولا!..... جہاں سوچوں کا مرکز ہے اس کو جھکاؤ اللہ کے سامنے کہ اے اللہ! میری سب سوچیں تیرے قدموں پر قربان۔

☆..... جیسے انسان کی شکل ہے ہو، ہوا سی طرح کی شکل انسان کے دماغ کے اندر بھی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ انسان کے ظاہری اعضاء کی ساخت اور ان کا قد و قامت اور ہے اور دماغ میں ان کی قد و قامت اور ہے۔ مثلاً دماغ کے اندر ہاتھ بھی بنے ہوتے ہیں، پاؤں بھی بنے ہوتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ زبان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے..... وجہ کیا ہے؟..... وجہ یہ ہے کہ جس عضو کو کنٹرول کرنے کے لئے جتنے زیادہ سگنل بھیجنے کی ضرورت تھی اتنا ہی بڑا اس کو ایریا چاہیے تھا۔ اب ہاتھ ہلانے کے لئے تو اتنے بڑے ایریا کی ضرورت نہیں ہے لیکن زبان..... تو یہ، تو یہ..... جب بندہ ٹرٹر کر رہا ہوتا ہے تو الفاظ بہت ہی تیزی سے نکلتے رہے

ہوتے ہیں اور اس وقت زبان ۲۶ جگہوں پر لگ رہی ہوتی ہے۔
 ☆..... آج کے زمانے میں دماغ کے آپریشن بڑی کامیابی کے ساتھ کئے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا نازک ساعضو ہے کہ اگر اس کو کوئی چھو لے تو بہت جلدی اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے مگر آج کے انسان نے نیوروسرجری کے اندر دماغ کے آپریشن بھی کر دیئے ہیں۔ وہ دماغ سے گلٹی اور رسولی وغیرہ نکال دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے جسم پر ریشہ طاری ہو جائے تو اس کے دماغ کے اس حصے کو نکال کر ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں اور اس کا ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔

دماغ میں انفارمیشنز کیسے کی جاتی ہیں؟

دماغ کے بارے میں اس دور میں بہت ہی زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے لیکن افسوس کہ اس ساری ریسرچ کا فائدہ آج کفار اٹھا رہے ہیں..... یہ ایک علمی نکتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ باتیں مشکل محسوس ہوں لیکن جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس نکتے کو سمجھیں گے تو حیران رہ جائیں اور تسلیم کریں گے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔

انسان کے دماغ کے اندر انفارمیشنز کے مختلف طریقے ہیں۔ اس کی مثال کمپیوٹر کی سی ہے۔ کمپیوٹر کے مختلف ان پٹ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کی بورڈ کے ذریعے اور ماؤس کے ذریعے انفارمیشنز چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑا جائے تب بھی انفارمیشنز دوسرے کمپیوٹر میں چلی جاتی ہیں۔ اگر مشین لینگویج کی کارڈ پکنج مشین ہے، تو آپ کارڈ نکال دیں، ان کارڈز کے ذریعے بھی انفارمیشن چلی جائے گی۔ تو ہارڈ ڈسک ایک ہی ہے مگر اس میں انفارمیشن جاننے کے کئی طریقے ہیں۔ اسی طرح انسان کے دماغ میں جو انفارمیشنز جاتی ہیں، اس کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو دیکھتے ہیں اس

دیکھنے کے ذریعے بھی دماغ میں انفارمیشن جاتی ہے، جو ہم سنتے ہیں اس سننے کے ذریعے بھی انفارمیشن چلی جاتی ہے، جو ہم سوچتے ہیں اس سوچ کے ذریعے بھی انفارمیشن چلی جاتی ہے، کسی چیز کو ہاتھ لگا کر چھوتے ہیں تو بھی انفارمیشن چلی جاتی ہے۔

اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ انفارمیشنز ہم ارادتا لیتے ہیں اور کچھ غیر ارادی طور پر بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر.....

(۱)..... آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نے ایک بورڈ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے لاہور کا فاصلہ پانچ سو کلومیٹر ہے۔ آپ نے وہ بورڈ پڑھا اور آپ آگے چل پڑے۔ آپ نے صرف فاصلہ دیکھنے کے لئے اس بورڈ پر نظر ڈالی تھی لیکن اور بھی بہت ساری انفارمیشنز خود بخود آگئیں..... وہ کیسے؟..... وہ اس طرح کہ اگر بعد میں کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے بورڈ کہاں دیکھا تھا تو آپ کہیں گے کہ دو کلومیٹر پہلے دیکھا تھا۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس کا سائز کتنا تھا تو آپ اس کو سوچ کر بتائیں گے کہ ہاں، وہ مجھے "4" x "8" کا نظر آتا تھا۔ اگر وہ پوچھے کہ لکھائی کا رنگ کیسا تھا تو آپ کہیں گے کہ جی وہ نیلا تھا۔ اگر وہ کہے کہ وہ کتنی اونچائی پر لگا ہوا تھا تو آپ سوچ کر بتائیں گے کہ وہ زمین سے تقریباً پندرہ فٹ اونچا لگا ہوا تھا۔ اب جب آپ نے فاصلہ دیکھا تو اس وقت آپ کی نیت یہ سب چیزیں دیکھنے کی نہیں تھی بلکہ فقط فاصلہ معلوم کرنے کی نیت تھی، مگر دماغ ایسی چیز ہے کہ اس نے کتنی اور انفارمیشنز از خود حاصل کر لیں۔

(۲)..... ایک اور مثال یوں سمجھئے کہ آپ گھوڑا کمرے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دروازہ کھولا مگر گھوڑے پر رکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بھی گھوڑے کے ساتھ خود بخود ہی اندر داخل ہو گئیں۔

اسی طرح جب انسان بعض معلومات لینے کا ارادہ کرتا ہے تو لاشعوری طور پر کئی اور معلومات اس کو خود بخود مل جاتی ہیں۔ گویا کہ لاشعوری طور پر کتنی ہی معلومات اس کے دماغ میں زبردستی گھس جاتی ہیں۔ یہ جو غیر شعوری طور پر معلومات دماغ میں گھس جاتی ہیں یہ بعض اوقات بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں اور ان کا انسان کے دماغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔

چنانچہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب سات ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے دماغ کے اندر انفارمیشنز جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا کہ ماں جو کچھ سوچتی ہے، جو دیکھتی ہے اور جو بولتی ہے، اس کے اثرات اس کے دماغ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے فقہاء نے سینکڑوں سال پہلے لکھا کہ خاوند کی ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہو تو وہ اس کو غمزہ نہ ہونے دے بلکہ بچے والی عورت کا لحاظ کرے اور ہر ممکن کوشش کرے کہ یہ پریشان حال نہ ہو، کیونکہ اگر حاملہ عورت ذہنی طور پر پریشان ہوگی تو اس کا بچے پر بھی اثر پڑے گا۔

کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ماں کی گونچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے لیکن اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، ماں کی کوکھ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اس لئے ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو تو حرام کھانے سے اور دوسرے گناہوں سے پرہیز کرے اس لئے کہ ان اعمال کے برے اثرات اسکے بچے پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر ماں کی سوچ اچھی اور نیکی والی ہوگی تو بچے پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔

شریعت نے کہا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ چھوٹا بھی ہو تو اس کے سامنے بھی کوئی ایسی ایسی بات اور حرکت نہ کریں..... کیوں؟... اس لئے کہ اگر چہ وہ کم

عمری کی وجہ سے سوچ نہیں رکھتا مگر وہ دیکھ تو رہا ہے۔ دیکھنے کی وجہ سے اس کے دماغ میں جا کر جو کچھ مثبت ہو رہا ہے، جب یہ بڑا ہوگا تو پھر اس کو اس خیال کا Analysis (تجزیہ) کرنا خود بخود آجائے گا۔ گویا شریعت نے حیا سکھائی کہ اگر میاں بیوی آپس میں میل ملاپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بچہ چھوٹا بھی ہو تو پردہ کریں۔ آج کل تو ایسی بے وقوفی ہے کہ ہم چلتے پھرتے بچوں کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا کیا ہے۔ نہ تو بچہ بول سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کہہ سکتا ہے لیکن بچہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس منظر کی وجہ سے اس بچے کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا انفارمیشنز جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی لئے ایسے بچے بے حیا بنتے ہیں۔ ماں باپ بچپن میں ہی ان کے حیا کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ پھر روتے پھرتے ہیں کہ بیٹی عجیب نکل آئی، بیٹے نے پاک کٹوا دی۔ وہ بیٹے اور بیٹی نے ناک نہیں کٹوائی، وہ ناک تو اس وقت کٹی تھی جب ان کے سامنے آپ نے فحش حرکات کی تھیں، اس وقت آپ نے شریعت کا خیال کیوں نہ رکھا۔

میوزک..... کفار کا ایک مہلک ترین ہتھیار

جب سائنسدانوں کے سامنے اس بات کی حقیقت کھلی کہ فلاں فلاں طریقے سے انسان کا دماغ انفارمیشنز قبول کرتا ہے تو انہوں نے اس بات پر محنت کی کہ ہم دوسرے بندے کے دماغ میں اپنی مرضی کی بات کیسے ڈالیں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ چنانچہ اس پر بہت زیادہ کام کیا گیا۔ بالخصوص کفار نے اس پر بڑا کام کیا کہ ہم کس طرح دنیا کے لوگوں کی سوچ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ دن رات کی ریسیرچ کے بعد ان کو اس کا بہترین طریقہ ”میوزک“ کی شکل میں نظر آیا۔ گویا انہیں مسلمانوں کی دینی غیرت کا جنازہ نکالنے کا یہ سب سے بڑا ہتھیار نظر آیا۔

میوزک سنتے وقت کیا ہوتا ہے؟ جب انسان میوزک کی آواز اور ساز سن رہا ہوتا ہے تو یہ میوزک انسان کے دماغ میں الیکٹریکل سگنلز کی شکل میں جا کر تیز ہو جاتا ہے۔ اس کو کمپیوٹر میں الیکٹریکل سگنلز کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ آج کل جو بیانات کئے جاتے ہیں، ان کی کیسٹ کو سی ڈی بنا کر کمپیوٹر میں بھر دیتے ہیں اور وہ اس Wave form (لہروں کی شکل) میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہوتا تو وہ بیان ہے مگر کمپیوٹر سکرین پر وہ لہروں کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس میں جہاں جہاں سپیکر کا شور یا انسان کی کھانسی کی آواز ہوتی ہے وہ سب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کمپیوٹر پر اس شور کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب اس شور کو ختم کرتے ہیں تو اتنی صاف آواز سے بات ہوتی ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید اس سے تو زیادہ اچھی آواز ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح آواز کو کم یا زیادہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے ایک مشین دیکھی تو اس مشین والے نے مجھے کہا، جی آپ کچھ بولیں، میں نے کچھ الفاظ بولے اور اس نے ان کو ریکارڈ کر لیا۔ پھر اس نے اس مشین میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ چلیج کر کے مجھے کہا، جی آپ اب اپنی آواز سنیں۔ میں نے جب سنا تو وہ ہو بہو اس عاجز کے وہی الفاظ تھے مگر اب کوئی سورت بول رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ ابھی تو یہ الفاظ میں نے کہے تھے۔

آواز کی پہچان کرنا کمپیوٹر کے لئے اب بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے۔ آپ کسی آدمی کی آواز ریکارڈ کر کے کمپیوٹر میں بھر لیں تو کمپیوٹر دیکھ لے گا کہ اس کے حروف کیسے ادا ہوتے ہیں یعنی اس کا لہجہ کیسا ہے، جب کمپیوٹر کسی کے لہجے کو معلوم کر لیتا ہے تو اب وہ کسی بھی لفظ کو اس کے لہجے میں پیش کر سکتا ہے۔ آپ نے ایک بات کہی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا پورا بیان اسی کے اوپر مل جائے گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں

ہوگا اور اپنی مرضی کے الفاظ آپ ہی کے لہجے میں پیش کر دیئے جائیں گے۔ اسی لئے ٹیلیفون پر بات چیت کرتے ہوئے کمپیوٹر خود بخود کچھ لوگوں کی باتوں کو بیان کرتا چلا جاتا ہے... کیوں؟... اس لئے کہ انہوں نے کمپیوٹر میں اس کے لہجے کو بھردیا کہ یہ بندہ جب بھی بات کرے تو تم نے اس کی آواز کو محفوظ کر لینا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر نگوں کی نظر ہوتی ہے اور ان کی ہر بات ہر وقت ٹیپ ہو رہی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں وہ جہاں بھی گفتگو کریں گے ان کے لہجے کو پہچانتے ہی کمپیوٹر اس کو محفوظ کرنا شروع کر دے گا۔

جس طرح ہماری آواز کمپیوٹر کے اندر جا کر بجلی کی لہروں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اسی طرح میوزک بھی لہروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ اگر سکرین پر دیکھیں تو وہ بھی آپ کو لہروں کی شکل میں نظر آئے گی۔ پھر ان لہروں کی شکل میں لا کر انہوں نے اس کے فارمولے بنا دیئے۔ گویا اب یہ **Mathematical** (ریاضیاتی) چیز بن گئی۔ یاد رکھیں کہ آج کل کی میوزک میں فقط دو چار آلات موسیقی استعمال نہیں ہوتے بلکہ پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کتنا علم موجود ہے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کمپیوٹر پر بیٹھ کر میوزک کے فارمولے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس فارمولا کو ایلگور تھم کہتے ہیں۔ سائنس پڑھے لکھے لوگ یہ بات آسانی سے سمجھ لیں گے۔ جب وہ ایلگور تھم چل رہے ہوتے ہیں تو اس پر میوزک کی ٹون اور اونچ نیچ کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اگلی بات سنئے جو آج میں سمجھانا چاہتا تھا....

جب موسیقی سکرین کے اوپر لہروں کی شکل میں آگئی تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم اس کے ذریعے انسانوں کی دماغ میں اپنی بات کیسے بھر سکتے ہیں۔ گویا انہوں نے گھوڑے کے اوپر کبھی بٹھادی کہ گھوڑے کے لئے تو دروازہ یہ کھولیں گے اور کبھی ہماری چلی جائے گی۔ نوجوان تو میوزک سننے کے لئے بیٹھتے ہیں مگر ان کو پتہ ہی نہیں

ہوتا کہ لاشعوری طور پر ان کے دماغ میں کیا کیا پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ سمجھ تو نہیں رہے ہوتے لیکن ان کا دماغ، جسے وہ پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے ویسے بن رہا ہوتا ہے۔ اس پیغام کو سائنس کی زبان میں Back track (بیک ٹریک) کہتے ہیں۔ سننے والا تو موسیقی سن رہا ہوتا ہے مگر Back track پر اس کو کوئی پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے..... خیر! انہوں نے Back track کے کئی تجربات کئے۔ مثال کے طور پر.....

①..... انہوں نے اس کا پہلا تجربہ یہ کیا کہ ایک گانا بنایا اور اس کی موسیقی میں Back track کا یہ پروگرام بھرا۔

Hate your mom..... ماں سے نفرت کرو۔

Hate your mom..... ماں سے نفرت کرو۔

Hate your mom..... ماں سے نفرت کرو۔

انہوں نے باقاعدہ تجربہ کیا کہ جو لوگ اس گانے کو پسند کرتے تھے وہ اپنی والدہ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کیونکہ جب گانا پسند کرنے والے کوئی گانا پسند کرتے ہیں تو وہ اسے ایک دفعہ نہیں سنتے بلکہ اسے سینکڑوں دفعہ سنتے ہیں۔ گاڑی میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، ٹی۔وی میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، شپ میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، سیر کرتے ہوئے بھی سن رہے ہوتے ہیں، ان کے کانوں کے ساتھ ہر وقت واک مین لگا ہوتا ہے۔ اس طرح سینکڑوں دفعہ پیغام جا رہا ہوتا ہے اور ان کے دماغ میں اچھی طرح شبد۔ ہو رہا ہوتا ہے۔

②..... جب انہوں نے ہزاروں لوگوں میں اس بات کا کامیاب تجربہ کیا تو اب انہوں نے اس کا اگلا کنفرمیٹری ٹیسٹ یہ کیا کہ ایک Hit قسم کا گانا جیسے لوگ نارٹلی پسند کرتے ہیں اس کی میوزک کے بیک ٹریک پر انہوں نے یہ پیغام دیا:

.....Kill your dad. باپ کو قتل کرو۔

.....Kill your dad. باپ کو قتل کرو۔

.....Kill your dad. باپ کو قتل کرو۔

اس میوزک سے ان کو رپورٹیں ملیں کہ کتنے ہی نوجوانوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور بہت سے ایسے تھے جو ڈاکٹر کے پاس گئے کہ باپ کے قتل کرنے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔

⑤.....جب ان کے یہ پیغام کامیابی کے ساتھ دوسرے بندوں کے ذہنوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے تو یہ ایک نئی چیز بن گئی۔ پھر کفار نے اس کو اپنی تبلیغ کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ کچھ ایسے گانے ہیں جن کے بیک ٹریک پر ہے:

.....There is no God. خدا نہیں ہے۔

.....There is no God. خدا نہیں ہے۔

.....There is no God. خدا نہیں ہے۔

اب اس گانے کو سننے والا عام طور پر دین سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں دین کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔

⑥.....ایک گانے کے بیک ٹریک پر انہوں نے یہ پیغام دیا:

.....Worship the devil. شیطان کی پوجا کرو۔

.....Worship the devil. شیطان کی پوجا کرو۔

.....Worship the devil. شیطان کی پوجا کرو۔

⑦.....ایک گانا ہے، میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے گایا، ان منحوسوں کے نام مسجد میں بیٹھ کے کیا لینے، لیکن ایک ایسی آواز تھی جسے دنیا پسند کرتی تھی۔ اس کے بیک ٹریک پر انہوں نے یہ پیغام دیا:

I am Satan.....میں شیطان ہوں۔

I am Satan.....میں شیطان ہوں۔

I am Satan.....میں شیطان ہوں۔

چنانچہ اس وقت ایک بڑے ملک میں، جس کا نام آپ سمجھ گئے ہوں گے، نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو اپنے آپ کو شیطان کہلوا کر خوش ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شیطان ہیں۔

جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے پیغام آسانی سے دوسرے بندے کے دماغ میں جا کر بیٹھ رہے ہیں اور وہ ہماری بات قبول کر رہے ہیں تو ان کو تو یہ کام بڑا آسان نظر آیا کہ ہم پوری دنیا کی سوچ اپنی سوچ کے مطابق کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے طریقہ یہ بنایا کہ میوزک کو ہر چیز میں داخل کر دو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام سنتے ہیں اور ان کو ہر چیز کے بیک گراؤنڈ میں میوزک سنائی دیتی ہے۔ اب تو ایسا بھی ہو گیا ہے کہ اب نعتوں کے بیک گراؤنڈ میں بھی میوزک شروع ہو گئی ہے۔ ٹی۔وی پر کلمہ طیبہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ پر میوزک آرہی ہوتی ہے۔ سیل فون کی بیلن دیکھو تو اس میں میوزک ہے اور ایسی ایسی میوزک آگئی ہے جو مسجدوں میں بھی آج کل بچ رہی ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں اور میوزک بچ رہی ہوتی ہے۔ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور اس دوران صف میں سے کسی کا سیل فون بچ رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے میوزک آرہی ہوتی ہے، کوئی مسلمان نوجوان ایسا نہیں جس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ میں ریسرچ کر کے اس کو السلام علیکم کی آواز میں تبدیل کر دوں تاکہ جب بھی فون کی بیلن آئے تو وہ اونچی آواز سے السلام علیکم، السلام علیکم کہنا شروع کر دے۔ تو پوری دنیا میں دیندار لوگوں کو دین سے ہٹانے کا یہ کام وہی ایک دماغ کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں نبی علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی بصیرت پر کہ محبوب ﷺ نے چودہ سو سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں ”مزامیر“ یعنی موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

ایک وقت تھا کہ جب موسیقی فقط کانوں کی لذت تھی مگر آج کانوں کی لذت نہیں بلکہ دین کا خسارہ اور ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ لہذا پہلے کی نسبت آج کی موسیقی بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔

وڈیو گیمز کے ذریعے کفار کی کوششیں

اگر آپ چھوٹے بچوں کو کھیلنے کے لئے کوئی پروگرام لا کر دیں کہ جی یہ **Lion king** کا پروگرام ہے، ذرا اس کو کمپیوٹر سکرین پر بیٹھ کر دیکھ لیں۔ اس **Lion king** کے اوپر میوزک چل رہی ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میوزک کا دماغ پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ جو بندہ اس کو ایک دفعہ سن لیتا ہے وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور ہرگز پیچھے نہیں ہٹتا۔

آپ ذرا غور کریں کہ جب وہ بچوں کے وڈیو گیم کا ایک پروگرام بناتے ہیں تو اس پر تین تین سو پلے۔ ایچ۔ ڈی ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر اور نیوروسرجن کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ بھئی بچوں کا ایک پروگرام ہی تو بنانا ہے مگر اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل وہ فوج ہر ہر زاویے سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو ایسا بنائیں کہ کھیلنے والا بچہ بس ایک دفعہ بیٹھ جائے تو اسٹنٹے کو اس کا دل ہی نہ کرے۔

جب بچہ وڈیو گیم کھیلتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی مصروف ہوتی ہیں، دماغ بھی مصروف ہوتا ہے، کان بھی مصروف ہوتے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ بھی مصروف ہوتے ہیں۔ بلکہ اب تو **Virtual reality** کی ایسی گیمز آچکی ہیں کہ ان میں پاؤں بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچے کو ہم نے دیکھا کہ وہ کھیلنے بیٹھا تو نو

گھٹنے کھینے کے بعد بھی وہ کہتا تھا کہ مجھے اس سے نہ اٹھایا جائے بس میں کھیلتا ہی رہوں۔ کیا مصیبت ہے، کیا دلچسپی کر دی گئی کہ بچہ رات کو نو گھنٹے بیٹھا رہا اور اس کے اعضاء تھکے ہی نہیں تھے۔ ابھی بھی وہ چاہتا تھا کہ امی مجھے سکول نہ بھیجے اور میں اسی پر بیٹھا کھیلتا رہوں۔ اس کے دماغ کو اس طرح کنٹرول کر لیا گیا۔ اتنی دلچسپی پیدا کر دی گئی کہ نہ اس کو کھانے کی پروا، نہ اس کو پینے کی پروا، نہ اس کو پڑھنے کی پروا اور نہ ہی اسے کسی اور کام کی پروا رہی۔

سوچنے کا مقام

اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ بیٹے ہمارے ہیں اور ہم ان کو پالتے ہیں مگر ان کی میوزک سن کر وہ دماغی طور پر ان کے بن جاتے ہیں۔ اس ایک بات کو ذہن میں رکھنا کہ جو نوجوان گانوں کا شوقین ہو وہ قدرتی طور پر فرنگی تہذیب کا دلدادہ بن جاتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیں۔ وہ نوجوان تو کہتا ہے کہ جی میں تو بس ذرا سا سنتا ہوں۔ جی ہاں! وہ جوڑوں ٹوں کی شکل میں گانے سن رہا ہے، ان گانوں کی وجہ سے وہ اسلام سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور فرنگی تہذیب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ آپ ذرا ان کے سامنے فرنگی تہذیب کے خلاف بات تو کر کے دیکھیں، وہ تڑپیں گے کہ بات ہی کیوں کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کو دینداری سے قدرتی طور پر نفرت ہو جاتی ہے۔ ان کو دینی وضع قطع اچھی نہیں لگتی، دیندار اچھے نہیں لگتے۔ جی، تمہیں کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ۔ جی، تکلیف بھی کوئی نہیں۔ تو پھر نفرت کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی۔ دراصل اس میوزک کے ذریعے ان کے دماغ میں دین اور دینداری کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔

آج ہم نے اپنے گھروں میں ٹی۔وی اور ریڈیو لگا کر رکھ دیئے ہیں اور ہماری عورتیں اور بچے گھروں کے اندر میوزک سن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں

ہوتا کہ اس میوزک کے ذریعے ہمارے بیوی بچے بے دین بن رہے ہوتے ہیں۔
 سنئے اور دل کے کانوں سے سنئے..... نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
 موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کا خیال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح بارش
 کے برسنے سے زمین میں کھیتی پیدا ہو جاتی ہے۔ خاوند تو دفتر میں چلا جاتا ہے اور بیوی
 ٹی وی آن کر دیتی ہے۔ اب وہ بیچاری سارا دن اس کے اوپر ٹوں ٹوں سن رہی ہوتی
 ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس کی سوچ کتنی پاک بن چکی ہوگی۔ آج تو بیٹوں اور بیٹیوں
 کے کمروں میں الگ الگ ٹی۔ وی رکھوائے ہوئے ہوتے ہیں۔

یہاں فرق دیکھئے کہ جو خیر کی بات کر کے ان کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں وہ
 تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مسجد سے نکل کر گشت کرتے ہوئے آکر ان کا
 دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اب ان کی مرضی کہ کھولیں یا نہ کھولیں، بات سنیں یا نہ سنیں۔
 وہ بات بھی کریں گے تو صرف مردوں سے کریں گے، عورتوں سے تو کریں گے ہی
 نہیں۔ تو خیر کا کام کرنے والوں کے لئے تو ایک Limitation (حد) مقرر ہے
 مگر کفر کو دیکھئے کہ سکرین آن کرتے ہیں اور اس کو بیڈروم تک رسائی حاصل ہو جاتی
 ہے اور بیڈروم میں بیٹھی جوان لڑکی سکرین پر ان کا پیغام سن رہی ہوتی ہے۔ تو برائی کا
 پیغام پہنچانے والوں کو بیڈروم تک رسائی حاصل ہے اور خیر کا کام کرنے والوں کے
 لئے باہر کے دروازے بھی بند ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ بھی برائی پھیل رہی ہے لیکن
 بھی برائی پھیلنے کے یہ ظاہری اسباب بھی تو ہیں نا۔

اگر آج کسی گھر میں کوئی نوجوان کہہ دے کہ امی! مجھے گھر میں ٹی وی نہیں
 چاہیے تو ایک طوفان اور ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ ایسی جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ نہ
 پوچھو۔ یہ ٹی وی ایمان کے لئے ٹی بی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے گھر میں شیطان کی
 ایک بریگیڈ فوج بلا کر بٹھائی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا گلا کہ بچے پڑھتے نہیں، توجہ نہیں

دیتے، ماں باپ کے فرمانبردار نہیں بنتے، نماز نہیں پڑھتے۔ پھر شکوے کرتے ہیں کہ جی بچہ ہر وقت سویا رہتا ہے۔ جی ہاں، جو ساری رات میوزک سنے گا وہ سارا دن سوئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔

پہلے زمانے میں بھی میوزک حرام تھا مگر اس وقت اس کا نقصان یہ تھا کہ یہ کانوں کی لذت۔ اب کفر کی دنیا اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی کر لیں، یہ وقتی طور پر ہم سے ناراض بھی ہو جائیں، ہمیں برا بھی کہیں، ہمیں ظالم بھی کہیں، لیکن ہم نے پھر بھی میوزک کے ذریعے ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دینی ہے۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میوزک سے اپنی جان چھڑائیں، اپنے گھروں کو پاک کریں اور اپنے معصوم بچوں کو اس مصیبت سے بچائیں۔ ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں جب اس میوزک کو سنیں گی تو پتہ نہیں کہ ان کے دماغ کی کیا حالت ہوگی۔

اگر آپ کمپیوٹر سکرین پر اپنے بچوں کو پروگرام (گیمز) کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں تو ان گیمز کی خود ایڈیٹنگ کیجئے۔ میوزک کے بغیر بھی تو گیمز ہو سکتی ہیں۔ آج کل تو یہ چیز گھروں کے لئے انتہائی ضروری ہو گئی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اولاد نہ تعلیم حاصل کر سکے گی، نہ آپ کی فرمانبردار بنے گی، نہ دیندار بنے گی بلکہ اس کو اپنی شہوتوں اور مستیوں سے ہی فرصت نہیں ملے گی۔

ہر دور کے چیلنجز مختلف ہوتے ہیں۔ آج کے اس دور میں کفر نے سائنسی ریسرچ کے ذریعے حملوں کے طریقے بدل لئے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اپنے ایمان کا دفاع اسی طرح سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ (آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین.



إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَالِفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ (حم مجده: ۳۰)

قوت ارادی

بیان حضرت اقدس

مولانا بیروز والفقار احمد نقشبندی مجددی

دامت برکاتہم

اقتباس

مشائخ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس سے بندے کے اندر قوتِ ارادی بڑھ جاتی ہے۔ خر بوزے کو دیکھ کر خر بوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اس لئے جتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی اللہ والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ چند لمحوں کی صحبت ان کی زندگی کے رخ بدل کے رکھ دیتی ہے، یہ استقامتِ قوتِ ارادی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر دیکھنا ہو کہ ایمان والوں کے اندر استقامت اور قوتِ ارادی کتنی ہوتی تھی تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے۔ ایک ایک صحابیؓ آپ کو عزم و استقامت کا پیکر نظر آئے گا۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

قوت ارادی

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَا بَعْدًا
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا
 تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝
 (حَم السجده: ۳۰)

..... وقال الله تعالى في مقام اخر

فَأَسْتَقِيمُ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفُوا (هود: ۱۱۲)
 سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

قوت ارادی ایک نعمت ہے

انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اس کا خلیقہ اور اس کی صفات کا
 مظہر اتم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ مثلاً
 عقل کا نور عطا کیا، بولنے کی طاقت دی، جانوروں پر فضیلت دی۔ اس کے علاوہ
 ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جو انسان اپنی محنت اور کوشش سے بھی حاصل نہیں کر سکتا

تھا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ”قوت ارادی“ بھی ہے۔ یہ قوت ارادی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس قوت ارادی کو بروئے کار لا کر انسان بعض اوقات ناممکن نظر آنے والے کاموں کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ قوت ارادی کو **Will Power** یا **Determination Power** بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ نعمت ایمان والوں میں زیادہ ہوتی ہے تاہم یہ کافروں میں بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کفار بھی بعض اوقات بڑے عجیب و غریب کام کر دکھاتے ہیں۔

دنیا کا سب سے بڑا ترجمان اور اس کی قوت ارادی

اٹلی کا ایک سائنسدان تھا۔ اس نے عربی زبان سیکھی۔ چونکہ وہ میڈیکل کی لائن سے تعلق رکھتا تھا اس لئے اس نے لائبریریوں میں یونانی طب پر بہت سی کتابیں پڑھیں۔ ان میں سے اسے دو کتابیں بہت اچھی لگیں۔ اس نے ان کا ترجمہ عربی زبان سے اطالوی زبان میں کر دیا۔ وہ کتابیں اتنی مقبول ہوئیں کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی عین اسی وقت اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ علاج کی غرض سے کسی ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تم کینسر کے مریض ہو، ہمارے پاس اس کی دوائی دستیاب نہیں ہے، لہذا یہ کینسر پھیل جائے گا اور تمہیں زیادہ سے زیادہ دو سال میں موت آجائے گی۔ اب کوئی اور ہوتا تو وہ سن کر پریشان ہو جاتا مگر اس کے اندر بڑی قوت ارادی تھی لہذا وہ کہنے لگا کہ پھر تو میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے بہت سا کام کرنا ہے۔ چنانچہ وہ لائبریریوں میں گیا اور اس نے طب یونانی پر جتنی اور کتابیں تھیں وہ سب اچھی طرح دیکھیں اور ان میں سے اسے اسی کتابیں بڑی اچھی لگیں۔ اس نے وہ کتابیں لے لیں اور واپس چلا گیا۔ واپس جا کر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا معاون بنا لیا اور کہا کہ کتابوں کی ٹرانسلیٹن میں جہاں اصطلاحات ہوں

گی، ان کا ترجمہ میں کروں گا اور جو روٹین کی عبارت ہوگی تم اس میں میری مدد کرنا۔ اس طرح اس بندے نے دو سالوں میں اسی کتابوں کا ترجمہ عربی سے اطالوی زبان میں کر دیا۔ اس وقت گینٹر بک آف ریکارڈ میں اس کا نام ”دنیا کا سب سے بڑا ترجمان“ کے طور پر لکھا ہوا ہے..... دیکھیں کہ وہ کینسر کا مریض تھا اور اس نے ایسا کام کر دکھایا جو ہم لوگ صحت کے عالم میں بھی نہیں کر سکتے..... یہ کیا چیز تھی؟ یہ توتہ ارادی تھی۔

ایک نوبل پرائز و نر کی توتہ ارادی

ایک مرتبہ ایک نوبل پرائز و نر سے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، آپ نوبل پرائز و نر کیسے بنے؟ اس نے کہا، میں بہت زیادہ محنتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ سائنس پڑھنے والا ہر طالب علم محنتی ہوتا ہے اور صبح و شام کتاب لے کر بیٹھا ہوتا ہے، اس نے کہا، نہیں میں زیادہ محنتی ہوں، انہوں نے کہا، پھر بھی آپ بتائیں تو سہی کہ آپ کیسے دوسروں سے زیادہ محنتی ہیں؟ وہ کہنے لگا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میں نے کیمسٹری کی ایک کتاب پڑھی تو مجھے سمجھ میں نہ آئی، میں نے اسے دوسری مرتبہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا، پھر چوتھی مرتبہ پڑھا، حتیٰ کہ میں نے اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک تریسٹھ مرتبہ پڑھا اور وہ کتاب مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ آج طلباء میں سے شاید ہی کوئی کہہ سکے کہ وہ اپنا پورا کورس سال میں دو مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ پڑھ لے تو اساتذہ پر احسان سمجھتا ہے اور اگر دوسری مرتبہ پڑھ لے تو ماں باپ پر احسان گردانتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی نہیں پڑھ پاتا۔ جبکہ اس نے اس کتاب کو تریسٹھ مرتبہ پڑھا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والوں نے کہا کہ واقعی آپ جیسا محنتی بندہ نوبل پرائز جیتنے کی اہلیت رکھتا ہے۔

نیوٹن کی قوتِ ارادی

جب نیوٹن نے Laws of motion (حرکت کے قوانین) بتائے تو

اسے بہت کام کرنا پڑا کیونکہ اس میں Mathematical Equations (ریاضیاتی مساواتیں) بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے پورے کمرے میں کاغذ پھیل گئے۔ جب اس کا مسودہ تیار ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا کہ میری محنت کام آگئی۔ اتنے میں اسے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ابھی وہ واش روم میں ہی تھا کہ اس کا کتا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ادھر ادھر پھرنے لگا۔ ایک جگہ کاغذوں کے ڈھیر سے اس کا پاؤں پھسلا تو چراغ نیچے گر گیا۔ جس کی وجہ سے کمرے میں پڑے سب کاغذات جل گئے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے آگ لگی ہوئی دیکھی۔ اس نے آگ بجھائی تو اس کا سارا مسودہ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اس کے کتے کا نام ”ٹونی“ تھا۔ اس نے اسے صرف اتنی بات کہی، ٹونی! تم نے میرا کام بڑھا دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر محنت کرنی شروع کر دی۔ چونکہ اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ یادداشت ابھی باقی تھی اس لئے اس نے ایک سال پھر اور محنت کر کے حرکت کے قوانین کو دوبارہ لکھ لیا۔ اس طرح ایک آدی قوتِ ارادی کے ذریعے منقہ کو مثبت اور اپنی شکست کو اپنی فتح میں تبدیل کر لیا کرتا ہے۔

آئن سٹائن کی قوتِ ارادی

آئن سٹائن آج کی سائنس کی دنیا میں اس طرح معزز ہے جیسا کہ دین کی دنیا میں انبیائے کرام معزز ہوتے ہیں۔ اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ بچپن میں سکول جاتا اور بس کنڈیکٹر اسے پیسے کا لین دین کرتا تو وہ اس سے روزانہ جھگڑا کرتا کہ تم نے مجھے پیسے پورے واپس نہیں کیے لیکن جب وہ دوبارہ گنتی کرتا تو وہ

ٹھیک ہوتے۔ جب چند مرتبہ ایسا ہوا تو بس کے کنڈیکٹر نے کہا، تو کیا سکول پڑھنے جاتا ہے کہ تجھے حساب اور گنتی بھی نہیں آتی۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس نے عہد کر لیا کہ میں حساب میں محنت کروں گا۔ چنانچہ اس نے اتنی محنت کی کہ اس نے **Theory of Relativity** کا نظریہ پیش کیا جو آج کی دنیا میں سب سے بڑا سائنسی نظریہ سمجھا جاتا ہے۔

کفار کی یہ چند مثالیں اس لئے پہلے دے دیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو آدمی مومن بن جاتا ہے اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے اور اس کی قوت ارادی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

سچ سے قوت ارادی بڑھ جاتی ہے

الحمد للہ، ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیشہ سچ کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب انسان کے دل میں سچ ہوتا تو وہ اپنے کاموں میں پہاڑوں کی طرح استقامت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سچائی انسان کی قوت ارادی بڑھا کر اس کو بے خوف کر دیتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ ”ہد ہد“ تھا۔ وہ لشکر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں وہ اپنی چونچ سے زمین کھود کر بتاتا کہ پانی قریب ہے یا نہیں۔ اسی حساب سے پڑاؤ کی جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا چاہا تو ہد ہد غائب تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا، یادہ غائب ہے۔ پتہ چلا کہ وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ فرمایا، اچھا اگر وہ کہیں چلا گیا ہے تو اس کو کوئی معقول وجہ بیان

کرنی پڑے گی ورنہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہد ہد بھی آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس پر بندے نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ

أَحْطُتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ

[میں نے آیا خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی اور آیا ہوں تیرے پاس سب سے ایک نئی خبر لے کر] (النمل: ۲۲)

اب یہاں دیکھیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے سامنے جو ابده تھا جو وقت کے پیغمبر علیہ السلام بھی تھے اور تخت و تاج کے مالک بھی تھے۔ بلکہ وہ ایسے جلیل القدر پیغمبر تھے جو انسانوں کے بھی بادشاہ، جنوں کے بھی بادشاہ، پرندوں کے بھی بادشاہ، چرندوں کے بھی بادشاہ، خشکی کی مخلوق کے بھی بادشاہ اور تری کی مخلوق کے بھی بادشاہ تھے۔ اتنی ہیبت و جلالت شان والے پیغمبر کے سامنے اس چھوٹے سے پرندے کی، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، کیا حیثیت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ میں ہد ہد کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا تو یہ بات سنتے ہی کانپ جانا چاہیے تھا، اس کو تو غشی کا دورہ پڑ جانا چاہیے تھا کہ جن کے سامنے جنوں کو دم مارنے کی اجازت نہیں ان کے سامنے میری کیا حیثیت ہے۔ لیکن چونکہ اس کے دل میں سچ تھا اس لئے جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے تو آگے سے اعتماد سے جواب دیا کہ میں آپ کے لئے قوم سب کی ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس پہلے سے نہیں ہے..... انسان تو بالآخر انسان ہے۔ جب اس کے دل میں سچ ہوتا ہے تو پھر اس کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے اور اس کے پایہ استقامت کے اندر کوئی لغزش نہیں آتی۔ اس لئے جہاں ہم اللہ رب اعزت سے اور نعمتیں مانگتے ہیں وہاں قوت ارادی والی نعمت بھی مانگنی چاہیے۔

مضبوط قوتِ ارادی کی ضرورت

آج ہمارے نفس پر اپنا کنٹرول کیوں نہیں ہے۔ مسجد میں تو اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو نفس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے اور آنکھ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ گھڑی میں تو لا اور گھڑی میں ماشہ ہوتے ہیں اور یونہی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح مٹی کی بنے ہوئے انسان ہیں۔ ان کی بھی دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پاؤں اور ایک دماغ ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر اتنا ٹھوس ایمان ہوتا ہے کہ جب وہ دل میں ایک ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ نبھا کر دکھا دیتے ہیں۔ یہاں آ کر ایک عام آدمی میں اور ایک اللہ والے میں فرق کا پتہ چلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو استقامت بہت پسند ہے۔ اسی لئے ارشاد فرمایا،

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (حَمَّ السَّجْدَةِ: ۳۰)

[جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے]

آج کا نوجوان استقامت میں کمی ہونے کی وجہ سے اپنے نفس کا غلام بنا پھرتا ہے۔ جھگ بھی ہے مگر نفس پر قابو بھی نہیں پاسکتا..... کیسے قابو ملے؟..... اس کے لئے مضبوط قوتِ ارادی کی ضرورت ہے۔ ہماری حالت ماچس کی تیلی کی مانند ہے۔ جس طرح اس کے اندر آگ بھری ہوتی ہے، بس رگڑ لگنے کی دیر ہوتی ہے کہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے نفس کے اندر بھی خباثت بھری ہوتی ہے، نامحرم پر نظر پڑتی ہے تو ایسی رگڑ لگتی ہے کہ نفس میں شہوت بیدار ہو جاتی ہے، ذرا سی مسکراہٹ ہمارا وضو توڑ دیتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ ہم اپنے نفس اور شیطان کے خلاف فاتح کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا راز قوتِ ارادی میں پوشیدہ ہے۔

لکڑی آگ کی غذا کیسے بنتی ہے؟

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے۔ جب تھک گئے تو قیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو درخت میں سے آواز سنی:

يَا سَوِي كُنْ مِثْلِي (اے سری! تو میرے جیسا ہو جا)

وہ بڑے حیران ہوئے۔ جب انہوں نے سنا کہ درخت میں سے اس طرح کی

آواز آرہی ہے تو انہوں نے درخت سے مخاطب ہو کر کہا،

كَيْفَ أَكُونُ مِثْلَكَ (میں تیرے جیسا کس طرح بن سکتا ہوں)

درخت نے جواب دیا،

إِنَّ الدِّينَ بِرْمُونِي بِالْأَحْجَارِ فَأَرْمُوهُمْ بِالْأَثْمَارِ

[اے سری! لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں اور میں ان کی طرف اپنے پھل

لوٹاتا ہوں (لہذا تو بھی مجھ جیسا ہو جا)]

اللہ تعالیٰ نے ان کو نور فراست عطا کیا ہوا تھا لہذا ان کے دل میں فوراً خیال آیا

کہ اگر یہ درخت اتنا اچھا ہے کہ پتھر مارنے والے کو بھی اپنے پھل دیتا ہے تو پھر اللہ

تعالیٰ نے اس کو آگ کی غذا کیوں بنایا۔ لکڑی جلتی ہے اور آگ کی غذا بنتی

ہے۔ چنانچہ انہوں نے درخت سے پوچھا،

وَكَيْفَ مَصِيرَكَ إِلَى النَّارِ

[اے درخت! اگر تو اتنا اچھا ہے تو یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا

کیوں بنا دیا؟]

جب انہوں نے یہ پوچھا تو ایسے لگا کہ جیسے اس درخت نے ٹھنڈی سانس لی

اور جواب دیا کہ اے سری! میرے اندر خوبی بھی بہت اچھی ہے مگر میرے اندر ایک

ایسی خامی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے اور اس خامی نے میری سب خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ پوچھا، وہ خامی کون سی ہے؟ درخت نے جواب دیا،

فَأَمَلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا هَكَذَا

(اے سڑی! جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں)

میرے اندر استقامت نہیں ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ میری سب خوبیوں کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ کی غذا بنا دیا۔

قوتِ ارادی بڑھانے کا راز

مشائخ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس سے بندے کے اندر قوتِ ارادی بڑھ جاتی ہے۔ خر بوزے کو دیکھ کر خر بوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اس لئے جتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی اللہ والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ چند لمحوں کی صحبت ان کی زندگی کے رخ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ استقامتِ قوتِ ارادی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر دیکھنا ہو کہ ایمان والوں کے اندر استقامت اور قوتِ ارادی کتنی ہوتی تھی تو صحابہ کرامؓ کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے۔ ایک ایک صحابیؓ آپ کو عزم و استقامت کا پیکر نظر آئے گا۔

دو بچوں کی قوتِ ارادی

ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے میدان میں جائزہ لیا کہ میرے دائیں بائیں کون ہیں تو ایک طرف ایک نوجوان صحابیؓ تھے اور دوسری طرف دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ

دوسری طرف بھی کوئی نوجوان صحابی ہوتے تاکہ ہم مل کر آگے بڑھتے اور دشمنوں پر خوب حملہ کرتے۔ اتنے میں وہ بچے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، چچا جان! کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی عمریں دیکھیں تو حیران ہوا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، بچو! کیا بات ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو گالیاں دیتا ہے، اس نے ان کو مکہ مکرمہ میں بہت اذیتیں پہنچائیں، اگر وہ آج آیا ہوا ہے تو ہم ارادہ کر کے آئے ہیں کہ آج یا تو وہ خیریت سے واپس نہیں جائے گا یا ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے..... میں ان کی بات سن کر حیران ہوا کہ ان بچوں کے چھوٹے چھوٹے قد اور عمریں ہیں اور ان کا ٹارگٹ اتنا سکاٹی ہائی ہے..... میں نے انہیں اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جو تمہیں لوہے میں ڈوبے ہوئے فوجی نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان میں وہ اونچا سے ایک آدی نظر آ رہا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے ٹارگٹ کو اچھی طرح پہچان لیا۔

جب جہاد شروع ہوا تو نوجوان مجاہدین نے حملہ کیا۔ وہ بچے چھوٹے تھے اور انہوں نے بغیر سواری کے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ کفار نے ان کا نوٹس ہی نہ لیا۔ وہ گھوڑوں کے درمیان سے اپنا راستہ بنا کر ان کی صفوں میں سے گزرتے ہوئے ابو جہل کے گھوڑے کے قریب پہنچ گئے۔ ان کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ زمین پر کھڑے ہو کر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے دشمن پر وار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے قد ان کی اپنی تلواروں سے بھی چھوٹے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا۔ جب گھوڑا اگر تو ابو جہل بھی گرا۔ پھر اس پر وار کیا۔ وہ بچے اتنے کمزور تھے کہ وہ تلوار سے ابو جہل کا گلا بھی نہیں کاٹ سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، جن کا علم سیدنا امام اعظم کو پہنچا، نے

ابو جہل کا گلا کاٹنا اور اس طرح وہ دشمنِ خدائی بنا رہا .. جس قوم کے بچوں کی قوت ارادی کا یہ عالم ہو اس قوم کے نوجوانوں کی قوت ارادی کا کیا عالم ہوگا۔

ایک معذور صحابیؓ کی قوت ارادی

صحابہ کرامؓ میدانِ احد میں جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک صحابیؓ جو پاؤں سے معذور تھے، نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! مجھے بھی آپ جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، آپ کے چار بیٹے جہاد میں شریک ہو رہے ہیں اور آپ معذور بھی ہیں، لہذا اگر آپ گھر پر رہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے اصرار کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ننگڑے پن کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی گھر کو واپس لوٹے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ تیاری کرو میں بھی جہاد میں جا رہا ہوں۔ بیوی جب تیاری کرنے لگی تو اس نے مذاق میں کہہ دیا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ آپ میدانِ جہاد سے بھاگ کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ حسب انہوں نے یہ بات کہی تو اس وقت ان صحابیؓ نے یہ دعا مانگی،

اللَّهُمَّ لَا تَعَذِّبْنِي إِلَىٰ أَهْلِي

[اے اللہ! تو مجھے میدانِ جہاد سے واپس اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا]

چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ وہ میدانِ جہاد میں تشریف لے گئے، لڑائی میں حصہ لیا، کفار کو قتل کرتے رہے، قتل کرتے رہے حتیٰ کہ وہ خود بھی شہید ہو گئے۔

جب مسلمانوں کے ورثان کی لاشوں کو لے کر مدینہ آنے لگے اور ان کی زوجہ ان کی لاش کو اونٹ پر رکھ کر واپس آنے لگی تو اونٹ واپس نہیں چلتا تھا۔ بارہا کوشش کے باوجود جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی گئی تو آپ ﷺ نے

پوچھا، کیا انہوں نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی بات کہی تھی؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے محبوب ﷺ! انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ فرمایا، اب اس کی لاش بھی مدینہ کی طرف نہیں جائے گی۔ چنانچہ انہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا..... اللہ اکبر!!!..... جس قوم کے معذوروں کا یہ حال ہو اس قوم کے صحت مندوں کا کیا حال ہوگا۔

اسماء بنت ابی بکرؓ کی قوتِ ارادی

سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھیں۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا کہ تم چھوٹی ہو لہذا تم ہمیں فلاں جگہ پر کھانا پہنچا دینا، تم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ انہوں نے پہلے دن کھانا پہنچا دیا۔ جب دوسرے دن کھانا لے کر پہنچیں تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اداس سی ہے اور پیشانی پر زخم کا نشان ہے۔ پوچھا، اسماء! کیا ہوا؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! کل جب میں کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، اسماء! بتاؤ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ وہ وہیں ہوگا جہاں تمہارے پیغمبر ہوں گے، کیا تمہیں پتہ ہے؟ اے اللہ کے نبی! میں نے سچ کہہ دیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے لیکن میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ یہ سن کر اس نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا، مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی لیکن میں نے اس کو بات نہ بتائی۔ اس نے کہا، اسماء! میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میں نے کہا، تم جو مرضی کرو، میں بھی نہیں بتاؤں گی۔ اتنے میں اس نے مجھے رخسار پر اچانک زوردار تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے میں نیچے گر گئی، میرے ماتھے سے خون اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے پھر بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا، بتاؤ وہ

کہاں ہیں؟ میں نے ابو جہل کو جواب دیا، اے مردود! میری جان تو تیرے حوالے مگر میں محمد عربی ﷺ کو تیرے حوالے نہیں کروں گی..... ارے! جس قوم کی بچیوں کی قوتِ ارادی کا یہ عالم ہو تو پھر اس قوم کے جوانوں کی آتِ ارادی کا کیا عالم ہوگا۔

فاطمہ بنت خطاب کی قوتِ ارادی

سیدنا عمرؓ کیسے ایمان لے آئے؟..... بہنِ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھپڑ مارا، وہ نیچے گرے اور پھر سنبھل کر کہنے لگیں، اے عمر! جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تم جان تو نکال سکتے ہو مگر میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ بہن کے یہ الفاظ حضرت عمرؓ کے دل پر بجلی بن کر گئے اور وہ موم ہو گئے۔ چنانچہ کہنے لگے، اچھا بتاؤ، کیا پڑھ رہی تھیں؟ فرمانے لگیں، بھائی! تم ناپاک ہو، تمہیں اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، غسل لے کر ناپڑے گا۔

شکار کرنے کو آئے شکار ہو گئے۔

جس قوم کی عورتوں کی قوتِ ارادی کا یہ عالم ہو تو پھر اس قوم کے جوانوں کی قوتِ ارادی کا کیا عالم ہوگا۔

ایک فرنگی کا اعتراف

ایک فرنگی لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے عجیب محنت کی کہ

After the death of Muhammad (PBUH), the land of Arabia became the nursery of heroes.

(محمد ﷺ کے وفات پا جانے کے بعد عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی) ہیروز کسی نمایاں بندے کو کہتے ہیں۔ یعنی عرب کی زمین نمایاں شخصیات کی نرسری بن گئی۔ جس طرح نرسری کا چھوٹا سا پودا بالآخر ایک بڑا درخت بن جاتا ہے اسی

طرح صحابہ کرامؓ میں سے ہر ایک صحابیؓ انبی کے اوپر ایک ستارے کی مانند چمکنے لگا۔ یہ قوتِ ارادی ہی ان نمایاں شخصیات کے ایمان کی وجہ بنی۔ وہ من کے پکے اور دل کے سچے تھے۔ وہ جو بات کر دیتے تھے وہ کر گزرتے تھے۔ آج یہ استقامت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے ہم گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں وگرنہ ہم جس ماحول میں بھی ہیں ہم اسی ماحول میں رہتے ہوئے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بہانے کرنا فضول ہے کہ فحاشی عام ہے، بے پردگی عام ہے۔ اہل اللہ اسی گندے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت و سنت کے مطابق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کا نور عطا فرمادیتے ہیں۔ وہ بھی انہی گلی کوچوں بازاروں میں زندگی گزارتے ہیں..... فرق کہاں ہے؟..... استقامت کا فرق ہے۔ اگر دل کے اندر عزم و ارادہ ہو کہ میں نے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرنی تو انسان اپنے نفس پر قابو پالیتا ہے۔

سیدنا صدیق اکبرؓ کی قوتِ ارادی

اگر عزم و استقامت کی ایک اور اعلیٰ مثال دیکھنا چاہیں تو سیدنا صدیق اکبرؓ کی مبارک زندگی کو دیکھ لیجئے..... جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو جہاں اور بہت سارے مسائل نے جنم لیا وہاں مانعینِ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے مگر رقم بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے بلکہ اپنی مرضی سے اپنے علاقوں میں جہاں مناسب سمجھیں گے وہاں خرچ کریں گے۔ اس لئے ان کو مانعینِ زکوٰۃ کہا گیا۔ اگرچہ وہ اپنے علاقے کے غرباء میں زکوٰۃ تقسیم کرنا چاہتے تھے مگر اس سے مرکزیت ٹوٹی تھی اس لئے سیدنا صدیق اکبرؓ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زکوٰۃ مرکزی بیت المال میں ہی جمع کروائیں۔ مسئلہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، سجاح نامی عورت بھی نبوت

کی دعویٰ دار بن بیٹھی اور عیسائیوں نے بھی مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ گویا چاروں طرف سے خطرات موجود تھے۔

اس وقت باقی صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بیرونی فتنوں سے پہلے نمٹنا چاہیے اور یہ تو گھر کی بات ہے، یہ ہم بعد میں سنبھال لیں گے۔ مگر سیدنا صدیق اکبر ؓ نے کہا، نہیں، میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا حتیٰ کہ یہ زکوٰۃ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب سب صحابہ کرام کا یہ خیال تھا تو انہوں نے حضرت عمر ؓ کو بھیجا کہ آپ نمائندگی کرتے ہوئے کہہ دیجئے کہ اے امیر المؤمنین! یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، خدا اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، لہذا ان کے معاملے میں ذرا نرمی کا برتاؤ کیجئے۔ پہلے بڑے فتنوں سے نمٹ لیں، بعد میں ان کے ساتھ معاملہ کر لیں گے۔ حضرت عمر ؓ نے آکر یہی بات کر دی کہ آپ ذرا ان کے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کیجئے۔ بس یہ بات سنی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر ؓ نے ان کو دونوں ہاتھوں سے یوں دھکیلا کہ وہ سرین کے بل نیچے جا گرے اور فرمانے لگے،

أَجْبَازٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ

(تو جاہلیت کے دور میں اتنا جاہر تھا اسلام میں آکر تو اتنا کمزور ہو گیا)

پھر فرمایا،

أَبْنَقُصٌ وَأَنَا حَيٌّ (دین کے اندر کمی کر دی جائے اور میں زندہ رہوں)

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کے اندر کمی کر دی جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرا شرح صدر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں میں جوڑ پیدا فرما دیا۔

کسی نے سیدنا صدیق اکبر ؓ سے کہا، نبی علیہ السلام نے اسامہ کا جو لشکر روانہ فرمایا تھا آپ اسے روک لیجئے۔ فرمایا، جس لشکر کو اللہ کے محبوب ؐ روانہ کریں، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا۔ اس نے کہا کہ لوگ حملہ کر دیں گے اور

مدینہ میں فقط عورتیں رہ جائیں گی۔ فرمانے لگے، اگر مجھے یقین ہو کہ جنگل کے درندے آکر مدینہ کی عورتوں کی لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹیں گے تو اس کے باوجود بھی ابو بکر ان لوگوں کے ساتھ جہاد کے لئے باہر ضرور نکلے گا..... اللہ اکبر..... یہ ہوتی ہے استقامت۔ اسی استقامت کو دیکھ کر مفسرین نے لکھا کہ فَفَاقَمَ مَقَامَ الْأَنْبِيَاءِ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسی استقامت دکھائی جیسے وقت کے پیغمبر استقامت دکھایا کرتے تھے۔

محبوبِ خدا ﷺ کی قوتِ ارادی

اگر آپ اس سے بھی زیادہ استقامت دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کو انسانیت کی معراج نظر آئے گی..... مکی زندگی میں جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا ان کے نگران تھے اس وقت قریش مکہ ان کے چچا کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو پریش کے ساتھ متاثر کرنے کی کوشش کی۔ جب چچا نے دیکھا کہ سارا مکہ ہی خلاف ہے تو انہوں نے آپ ﷺ کو بلا کر کہا، یہ سردار ان مکہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مال و دولت کی ضرورت ہے تو جتنا چاہتے ہو ہم تمہیں وہ مال دے دیتے ہیں... اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو نشاندہی کر دو ہم وہ عورت تمہارے نکاح میں دے دیتے ہیں..... اور اگر تمہیں سردار بننے کا شوق ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، مگر ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اے بھتیجے! میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھانہ سکوں۔ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیکھا کہ چچا بھی اس معاملے میں تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں تو محبوب ﷺ نے جواب میں فرمایا، ”چچا جان! اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو جو پیغام لایا ہوں اس کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا“..... اللہ اکبر!!!

استقامت کی تلقین

یہی استقامت صحابہ کرامؓ کو پہنچی اور صحابہ کرامؓ سے آگے تابعین کو پہنچی۔ لہذا اولیائے کرام کے اندر یہ خاص صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اپنے آپ کو شریعت و سنت کے اوپر لاکھڑا کرتے ہیں اور یہی بات پروردگار فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا،

فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفُوا (ہود: ۱۱۲)

یعنی اے محبوب! آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی سب کے سب اس بات پر جس کا حکم دیا گیا، بالکل سیدھے رہیے۔ اگر ہم پنجابی میں فاستقیمہ كَمَا أُمِرْتُ کا مفہوم سمجھنا چاہیں تو یہ بنے گا کہ اے محبوب! آپ اور آپ کے صحابہ شریعت پر چلنے کے معاملے میں تکلے کی طرح سیدھے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی استقامت چاہیے۔ اور یہ استقامت انسان کے اندر ذکر اللہ کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ سے کہ مشائخ اپنے پاس آنے والے ہر بندے کو یہ جنرل ٹانک پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ پروردگار نے مجاہدین کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا تو انہیں بھی ذکر کا حکم فرمایا۔ سوچئے کہ جو لوگ جان کی بازی لگا رہے ہیں، سر قلم ہو رہے ہیں اور زمین اس وقت جب جان جانے کا خوف ہے پروردگار اس وقت بھی کثرت ذکر کا حکم فرما رہے ہیں۔ سنئے اور دل کے کانوں سے سنئے..... ارشاد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ فَنُتَبِتُوهَا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

[اے ایمان والو! جب لڑو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تا کہ تم مراد پاؤ۔]

یعنی جب تمہارا آئنا سامنا کافروں کی جماعت سے ہو تو ڈٹ جاؤ اور اللہ کا ذکر

کثرت کے ساتھ کرتے رہنا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ذکر اللہ کی کثرت سے ایک طرف بندے کو استقامت ملتی ہے اور دوسری طرف بندے پر اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برتی ہے۔ آج ہمیں بھی نفس اور شیطان کے خلاف اس استقامت کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے ارادے باندھتے ہیں کہ اب یہ نہیں کریں گے اب وہ نہیں کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری یہ ڈھل مل یقین والی حالت درست ہو جائے اور ہمارے اندر عزم و استقامت آجائے۔

ہم اللہ رب العزت سے جہاں اور بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں وہاں ہم یہ دعا بھی مانگا کریں کہ رب کریم! ہمیں شریعت و سنت پر چلنے میں استقامت نصیب فرما دیجئے اور وہ قوت ارادی دے دیجئے کہ جب ہم دل میں ایک عزم کر لیں تو پھر ہم اس کے اوپر جم جائیں۔ یاد رکھیں کہ جب پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صرف وہی چیزیں بہتی ہیں جو وزن میں ہلکی ہوتی ہیں۔ تنکے، پتے اور کاغذ کی چیزیں پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ اور کچھ چٹانیں ہوتی ہیں جو پانی کے ساتھ نہیں بہتیں بلکہ جب پانی گزرتا ہے تو وہ پانی کے رخ کو موڑ دیا کرتی ہیں۔ اگر آج ہر طرف کناہوں کا سیلاب ہے تو ہم نہ تو تنکا بنیں اور نہ ہی تختہ بنیں کہ ساتھ بہتے رہیں، بلکہ ہمیں چٹان بننے کی ضرورت ہے تاکہ بے راہ روی کے رخ کو موڑ دیا جائے۔

یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو

روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو

اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمادے کہ ہم عریانی اور فحاشی کے اس

بہتے ہوئے سیلاب کے خلاف چٹان بن کر حیا اور پاکدامنی کی زندگی گزاریں اور شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شمار ہو جائیں۔ راحر دعوتنا ان الحمد للہ رب العلمین۔



يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا
الْفٰسِقِيْنَ ۝ (البقرة: ٢٦)

ہدایت اور گمراہی والی تجلیات

حضرت اقدس دامت برکاتہم کا یہ بیان 17 جنوری 2004ء
بروز ہفتہ بعد نماز فجر جامعہ الفقیر الاسلامی جھنگ میں ہوا۔

اقتباس

جب مہمان خصوصی آتا ہے تو اس وقت تقریب اپنے
عروج پر ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دور بھی خیر کے
نقطہ نظر عروج کا دور تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے،
پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ
جڑا ہوا ہے۔

گویا جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا میں جلوہ افروز
ہونے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور ہدایت والی
تبیہات عروج پر تھیں۔ حتیٰ کہ اس زمانے کے کافروں میں
جی پتہ نہ بیاں پالی جاتی تھیں۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

ہدایت اور گمراہی والی تجلیات

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اضْطَفَىٰ أَمَا بَعْدُ!
 فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

دنیا کے مہمانِ خصوصی

جب کوئی آدمی کسی تقریب کا انتظام کرتا ہے تو اس تقریب کا کوئی نہ کوئی مہمانِ خصوصی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اگر شادی کی تقریب ہے تو دولہا اور اگر دستار بندی کی تقریب ہو تو حافظ یا عالم مہمانِ خصوصی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے نقشے کو سجایا تو اس کے مہمانِ خصوصی جناب رسول اللہ ﷺ کو بنایا۔ عام دستور یہ ہے کہ تقریب میں لوگ پہلے آجاتے ہیں اور مہمانِ خصوصی بعد میں آتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب ﷺ بھی دنیا میں سب انبیائے کے آخر میں تشریف لائے۔

تجلیات ہدایت کا عروج

جب مہمانِ خصوصی آتا ہے تو اس وقت تقریب اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دور بھی خیر کے نقطہ نظر عروج کا دور تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ [

گویا جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور ہدایت والی تجلیات عروج پر تھیں۔ حتیٰ کہ اس زمانے کے کافروں میں بھی کچھ خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ یہ بات دلائل سے ثابت کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر:

(۱)..... جب ہرقل نے ابوسفیان کو قریش مکہ کے نمائندے کے طور پر اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں بتاؤ تو انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں معلومات دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہرقل نے جو باتیں پوچھیں انہوں نے سچ سچ بتا دیں۔ بعد میں ان سے لوگوں نے کہا آتم نے بات اور طرح سے کیوں نہ کر دی کیونکہ مخالف کے بارے میں تو ہمیشہ الٹی رپورٹ دی جاتی ہے۔ وہ کہتے لگے کہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا تو تھا مگر پھر میں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ قریش مکہ کا سردار جھوٹ بولتا تھا۔ گویا اس زمانہ کے کافر بھی جھوٹ بولنے سے گھبراتے تھے۔ اس وقت خیر اتنی عام تھی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن سب آپسچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج جھوٹ وہ مصیبت ہے کہ اس کے دور اور پتہ نظر ہی نہیں آتا

..... الا ماشاء اللہ..... آپ کوچ والا کوئی قسمت سے ہی ملے گا۔ کوئی کم جھوٹ بولتا ہے اور کوئی زیادہ۔ اگر آپ کاروبار زندگی دیکھیں تو آپ کو اکثر و بیشتر جھوٹ پر بنیاد نظر آئے گی۔ لگتا ہے کہ سچ کا زمانہ گیا اور جھوٹ کا زمانہ آ گیا ہے..... کیوں؟..... اس لئے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں خیر عروج پر تھی۔ اس خیر سے مسلمانوں کو تو حصہ ملا ہی تھا کافروں کو بھی مل گیا۔

(۲)..... دوسری دلیل یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت جب سہیل کافروں کی طرف سے آئے اور انہوں نے آ کر مطالبہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے نام کی جگہ پر جو محمد رسول اللہ لکھا ہے اس کی بجائے محمد بن عبد اللہ لکھا جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے غصہ میں اسے کوئی سخت بات کہہ دی۔ جب سخت بات کر دی تو سہیل کہنے لگا، دیکھو! مجھے تمہارا ایک احسان یاد ہے، اگر تم نے مجھ پر وہ احسان نہ کیا ہوتا تو میں ابھی تمہیں جواب دیتا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت کا کافر بھی احسان کا بدلہ چکا رہا تھا۔ اور آج یہ حالت ہے کہ اگر کوئی کسی پر ساری عمر احسان کرے تو ایک ہی لمحہ میں خون یوں سفید ہو جاتا ہے کہ جیسے ان کے سوا ان کا کوئی بڑا دشمن ہے ہی نہیں۔ گویا یہ کہتا بے جا نہ ہوگا کہ انسان صرف خدا فراموش ہی نہیں بنا بلکہ احسان فراموش بھی بن گیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ آج کا انسان خدا فراموش بھی بنا، خود فراموش بھی بنا اور احسان فراموش بھی بنا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے کافر بھی کچھ نہ کچھ شرفاء کی باتیں کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں تو بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ایسا حشر کرتا ہے جیسے کسی دشمن سے کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے... یہ نکتہ بھی آج آپ کو سمجھا دوں، ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا... اللہ تعالیٰ نے دو نام ہیں۔

(۱) ہادی..... ہدایت دینے والا

(۲) مصل... گمراہ کرتے والا

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نام ہادی کی تجلیات ہر طرف عروج پر تھیں، جس کی وجہ سے شریعت ختم ہو گیا تھا۔ اسی لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوٌّ

[صحابہ سب کے سب عادل ہیں]

گویا آپ ﷺ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ جنہوں نے میری شاگردی اختیار کی وہ سب کے سب عدل پر زندگی گزارنے والے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی جماعت کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت گمراہ ہونے والوں میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہوتی تھی۔

..... وہ وعدہ کو وفا کرتے تھے۔

..... احسان کا بدلہ چکاتے تھے۔

..... سچ بولتے تھے۔

..... مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔

پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا وہ مہمان خصوصی جس کے لئے یہ تقریب سجائی گئی تھی، وہ آ کر رونق افروز ہوئے اور وہ اب دعوت کھا کر چلے گئے۔ جب مہمان خصوصی چلا جاتا ہے تو پھر بعد میں محفل کو برخاست کر دیا جاتا ہے اور محفل برخاست کرنے کے بعد باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ لوگ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور کرسیاں بھی سمیٹ دی جاتی ہیں۔ گویا مہمان خصوصی کے جانے اور محفل کے برخاست ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت دو انگلیوں

کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ محبوب ﷺ کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ لیکن اس نشانی کو بھی پورے ہوئے چودہ سو سال گزر گئے۔ قیامت آتے آتے اتنا عرصہ گزر گیا، اب بھی پتہ نہیں کہ کب قیامت آئے گی لیکن صورت حال یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ قیامت آنے کا منظر سجے گا۔

نگوینی انداز کی بازگشت

دو صحابہ میں اس دنیا کے عجیب احوال تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ حالات نہ رہے۔ مگر بعد میں مسلمانوں نے سات سو سال تک دنیا میں راج کیا اور ہر طرف اسلام کا ڈنکا بجا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دنیا کے اندر کیوں نہیں پھیل رہا۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اسلام نے سات سو سال تک دنیا میں راج کیا، اب اس کے بعد تو کام آہستہ آہستہ نیچے ہی آتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ اس کو ”نگوین“ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو پورے ہو کر رہنے ہیں۔ لہذا اس وقت کوئی جماعت جتنی بھی محنت کر لے،

..... چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو

..... چاہے وہ مشائخ کی جماعت ہو

..... چاہے وہ علماء کی جماعت ہو

..... چاہے وہ سیاسی جماعت ہو

کوئی جتنا مرضی زور لگا لے مگر دین کے نقشے اوپر اٹھتے نظر نہیں آتے بلکہ نیچے جاتے نظر آتے ہیں۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ محنت کرنے والوں کو اجر مل جائے گا۔ نگوینی انداز بتا رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ حالات نیچے ہی آئیں گے۔ کیونکہ اگر مسلمان خیر کے لئے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو کافر شر کے لئے اس سے بڑھ کر

کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح شریعتاً چلا جا رہا ہے۔

پردے کی اتنی پابندی.....!!!

جب اسلام عروج پر تھا تو اس وقت پردے کی اتنی پابندی تھی کہ عورتیں دن کے وقت گھروں سے نکلتی ہی نہیں تھیں۔ اگر نکلنا بھی پڑتا تو رات کو نکلتی تھیں اور اگر فوت بھی ہو جاتی تھیں تو وصیت کر کے جاتی تھیں کہ ہمارا جنازہ رات کو لے جایا جائے تا کہ دیکھنے والوں کو کفن سے ہمارے قد اور موٹاپے کا بھی اندازہ نہ ہو۔

ایک بھولا بھالانو جوان

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲۰ھ میں فتویٰ نویسی کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ ایسا زمانہ تھا جب پردے کی بہت زیادہ پابندی ہوتی تھی۔ اس دور میں ایک نو جوان امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت! مجھے بتائیں کہ مرد اور عورت کے جسم میں کیا فرق ہوتا ہے... اللہ اکبر... اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرد اور عورت کے جسم کے اعضاء میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت کتنا پردہ ہوتا ہوگا کہ جہاں ایک لڑکا پیدا ہو کر جوان ہو جاتا ہے اور اس کو کسی لڑکی کا جسم دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور آج ایسا شر اور بے پردگی کا وقت آ گیا ہے کہ بچے بچپن میں ہی وہ باتیں سیکھ جاتے ہیں جب کہ پہلے وقت میں جوان جوانی میں بھی نہیں سیکھا کرتے تھے۔

قابلِ لاحول یورپی ماحول

اگر یورپ وغیرہ کے ماحول کو دیکھیں تو الامان والحفیظ۔
ایک وقت تھا کہ

..... عورت گھر سے باہر نکلی،

..... پھر اس کا چہرہ پردے میں سے نکلا،

..... پھر اس کا سر نکلا ہوا،

..... پھر اسکرٹ پہننے کی وجہ سے اس کی پنڈلیاں نکلی ہوئیں،

..... پھر یہ کپڑا سمٹتے سمٹتے اب تو یورپ کے ماحول میں چند اونچے کالباس رہ گیا

ہے۔ حتیٰ کہ جن اعضاء کو اعضائے غلیظہ کہتے ہیں آج تو وہ بھی ننگے ہو رہے ہیں۔ ان کی چھاتیوں کے ابھار صاف نظر آرہے ہوتے ہیں۔ ان کے سینے پر ایک یا دو اونچے سے زیادہ کپڑا نہیں ہوتا۔

اب بتائیں کہ وہاں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا کیا حال ہوگا۔ وہاں سے حیا اس قدر رخصت ہو گئی ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک جگہ پر دو میاں بیوی (مرد اور عورت) اپنے چار بچوں کے سامنے آپس میں گلے بھی مل رہے تھے اور ایک دوسرے کو چوم چاٹ بھی رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی کھڑی تھی اور ان کا بیٹا بھی کھڑا تھا۔ بچے چھوٹے بھی نہیں تھے۔ ایک بیٹا بھی جو ان تھا اور ایک بیٹی بھی جو ان تھی۔ باقی دو بچے چھوٹے تھے۔ ان کے ماں باپ وہیں ان کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے۔

ضلالت والی تجلیات کا عروج

اب چونکہ قیامت آتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی تجلیات ذرا کم ہو گئی ہیں۔ اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی صفحہ مفضل عروج پر جائے گی۔ یہ اس لئے عروج پر جائے گی کہ جھوٹ پھیل جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے،

”پھر کذب پھیل جائے گا“

اس طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ

”ایک وقت آئے گا کہ ہر آدمی سود کھائے گا اور اگر نہیں تو اسے سود کی ہوا تو ضرور لگے گی۔“

ان میں سے ہم بھی ہیں۔ ہمیں بھی سود کی ہوا لگتی ہے۔ مثلاً کوئی گورنمنٹ کے کسی ڈیپارٹمنٹ میں یا مل میں کام کرنے والا آدمی اگر چہ وہ محنت کر کے حلال کی روزی کما رہا ہوتا ہے لیکن اس کو جو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے اس میں سود شامل ہوتا ہے کیونکہ دفتر والوں نے اور مل والوں نے بینکوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کئی آدمیوں کی حلال کمائی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی رقوم سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی حلال کمائی میں بھی سود شامل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سود کا ایک روپیہ بھی حلال کمائی میں شامل ہو جائے تو وہ مشتبه مال ہو جاتا ہے۔ اب ایسے مشتبه مال سے تو کوئی قسمت والا ہی بچا ہوا ہوگا۔ گویا اس زمانے میں یا تو بندہ سود کھا رہا ہے یا پھر اسے سود کی ہوا لگ رہی ہے۔ یوں شر پھیل رہا ہے، ہدایت گھٹ رہی ہے اور ایمان خطرے میں آتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسا زمانہ آجائے گا کہ بندہ صبح کواٹھے گا تو وہ ایمان والا ہوگا اور جب شام کو سونے کے لئے بستر پر جائے گا تو وہ ایمان سے خالی ہوگا۔

جب خیر کا دور تھا اس وقت کے کافروں سے بھی اچھائیاں ہو جاتی تھیں اور اب چونکہ گمراہی کی تجلیات کا دور چل رہا ہے اس لئے آج کے نیک لوگوں سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر.....

..... دونوں دوست دیندار ہیں اور ان میں حسد ہے۔

..... دونوں استاد ایک ہی مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ دونوں قرآن پڑھانے

والے ہیں اور ایک دوسرے سے حسد نہیں جاتا۔

..... ایک مہتمم ہے اور ایک استاد ہے مگر آپس میں ٹسل چل رہی ہے۔

..... دو پیر بھائی ہیں اور ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ پٹ چل رہی ہوتی ہے اور ان کا آپس میں پھڑا چل رہا ہوتا ہے۔
 جب آج کل کے نیکوں کا یہ حال ہے تو پھر دوسروں کا کیا کہتا..... ایسا کیوں ہے؟..... اس لئے کہ صفت مفضل والی تجلیات پڑ رہی ہیں اور بندے سے احیاً ایسا کام ہو جاتا ہے۔

طلاق دینے والے زنا کار

اچھا خاصا نیک لڑکا غصے میں آکر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر معصیت میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں تو پھر بھی ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن باہر کے ملکوں میں ہم نے ایک عجیب معصیت دیکھی کہ ذرا ذرا سی بات پر آپس میں ٹکرار سے یا تو طلاق دے دیتے ہیں یا پھر طلاق کے ہم معنی کوئی لفظ جسے کنا یہ کہتے ہیں اس کے ذریعہ بیوی کو طلاق بھی دے دیتے ہیں اور پھر وہ میاں بیوی بھی بن کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان ان سے ایسا کلیدی گناہ کرواتا ہے کہ اب وہ زنا کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔

بعض اوقات شیطان غصے میں کوئی ایسا لفظ کہلوا دیتا ہے جو انسان کے لئے کلمات کفر میں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر..... نقل کفر کفر نباشد..... ایک آدمی نے کہا، یارا کہاں رہتے ہو؟ دوسرے نے کہا، میں دیوان والی بستی میں رہتا ہوں۔ پہلا آدمی کہتا ہے، اچھا، خدا کے پچھاوڑے، علماء نے لکھا ہے کہ جس نے کہا کہ خدا کے پچھاوڑے، یعنی خدا کی پشت پر رہتے ہو، فَقَدْ كَفَرَ، (پس وہ کافر ہو گیا)۔ ایک تو کفر کی وجہ سے اس کے سابقہ اعمال گئے اور دوسرا اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو گئی۔ اب اگر وہ توبہ کر کے پھر مسلمان ہو بھی جائے تو اس سے نکاح کی تجدید تو نہیں ہوتی لہذا دونوں کو زنا کا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پتہ بھی نہیں ہوتا اور زنا کا گناہ بھی ہو رہا

ہوتا ہے۔

علاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بیوی نے میاں سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ بری صحبت چھوڑ دیں اور وقت پر گھر آیا کریں یہ تو شریعت کا حکم ہے اور آگے خاوند نے کہہ دیا، رکھ پرے شریعت کو، تو فقد کفو (پس وہ کافر ہو گیا)۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنے نازک کلمات ہیں جو وہ بول جاتے ہیں۔

طلاق کے ہم معنی الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہے کہ..... اچھا اچھا، جاؤ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے... تو اس کنایہ کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب بتائیں کہ کس کو اس مسئلہ کا پتہ ہے اور کون ایسے مسائل پوچھتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مال پیسہ بہت ہے اور ہر ایک میں اتا نیت ہے۔ بیوی میں بھی اتا ہوتی ہے اور خاوند میں بھی اتا ہوتی ہے اور جہاں اتا کا معاملہ ہو تو، توبہ توبہ،..... ایک بندے نے ایسی ہی بات کی تو میں نے کہا، او خدا کے بندے! ان الفاظ سے تو تو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے کہا، نہیں جی، اس سے طلاق تھوڑا ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا، جیسے نکاح کے لئے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح طلاق کے لئے بھی گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے..... وہاں تو طلاق کے بعد میاں بیوی پھر آپس میں اکٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، جی ہماری صلح ہو گئی ہے۔ ایک جگہ پر بات کرتے ہوئے ایک عورت نے اپنے میاں کی موجودگی میں بتایا کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں نے کہا، پھر کیا بنا؟ وہ کہنے لگی کہ پھر ہماری صلح ہو گئی۔ میں نے کہا، او خدا کی بندی! اب تو اس پر حلال نہیں ہے۔ جو تین طلاقیں دے چکا ہو وہ تو حق سے فارغ ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں جی، آخر میں اس کے بچوں کی ماں ہوں اس لئے مجھے بچوں کی خاطر اس کے پاس رہنا پڑتا ہے۔ اب وہ عورت اسی گھر

میں رہ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں اور کہہ رہی تھی کہ اب ہماری آپس میں صلح ہو گئی ہے۔ گویا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں صلح ہو جانے سے پھر نکاح ہو جاتا ہے..... میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی..... اچھا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں پہلے سے خباثت بھری ہوتی ہے وہ پھر مسلمانوں سے بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ کوئی حال ہے مسلمانوں کا، ان کو کافر اچھے لگتے ہیں۔

پاکستان کی قدر و قیمت

ہم لوگ نیویارک یا مینیسوٹا کی فلائیٹ سے واپس آتے ہیں، جب پی آئی اے والے اتار تے ہیں اور سامان آنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے تو لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ملک کا یہ حال ہے اور یہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے۔ ایسی باتیں سن کر ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہے۔

ایک جگہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے دو بندے آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے اور ہمارا دل جل رہا تھا۔ لیکن صبر و ضبط کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بات کرتے ہوئے مجھے کہنے لگا، مولانا! آپ لکھے پڑھے نظر آتے ہیں آپ ہتائیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں نے کہا، تم نے مجھ سے ضرور تصدیق مانگنی تھی۔ تم آپس میں باتیں کر رہے تھے کرتے رہتے..... پھر میں نے اسے سمجھایا۔ میں نے کہا، دیکھیں آپ یہاں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، تعلیم پائی، اس دھرتی کا پانی پیا، یہاں سانس لیا، یہاں کارزق کھایا، جب تیار ہو گئے تو تمہیں بیرون ملک نوکری مل گئی، کیا اب اس جگہ کا تم پر کوئی حق نہیں، قدر کرو اس جگہ کی۔ پھر میں نے پوچھا کہ اگر کوئی تمہارا پاسپورٹ کاٹ دے اور تمہیں یہ کہے کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر تمہیں دنیا میں قبر کی جگہ کہاں ملے گی؟ وہ کہنے لگا، پاکستان میں اور یہ کہتے ہی

اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ کہنے لگا، مولانا! آج آپ نے مجھے یہ احساس دلایا ہے۔ میں اس ملک کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔

بات صرف اتنی سی تھی کہ جی سامان آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو! میں بھی وہاں سے آرہا ہوں۔ آپ بتائیں کہ جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کو انر پورٹ پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہنے لگا، ایک گھنٹہ۔ میں نے کہا، وہاں تو مشینیں تیز چلتی ہیں نا؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پھر پوچھا، وہاں پر کام ٹیکیکلی ٹھیک ہوتا ہے نا؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے کہا کہ اس مطلب یہ ہے کہ ساڑھے تین سو بندوں کے سامان کو لادنا، نکالنا، بیٹوں پر ڈالنا اتنا ٹائم لے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہاں بولتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں بلکہ وہاں اس طرح چپ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ سانس کی آواز بھی نہ آئے۔ میں نے کہا، پھر یہاں آ کر کیوں بولتے ہو؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اس لئے کہ یہاں تمہیں آزادی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.....

اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا

میں بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں خباثت ہوتی ہے ان کو دیندار ویسے ہی برے لگتے ہیں۔ نہ وہ ملک سے خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں سے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو علماء اچھے نہیں لگتے۔ نہ وہ علماء کی سیاسی جماعت سے مطمئن ہوتے ہیں، نہ وہ مشائخ سے مطمئن ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ مدارس سے مطمئن ہیں۔ مگر یہ شکر ہے کہ آگے نجات کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی بندے کے اختیار میں ہوتا تو پتہ نہیں کہ کیا ہوتا۔ بھئی! آج کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ گو بندوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان سے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر تمہیں دل میں بغض رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں

کہ خدا معاف کرتا ہے تو کر دے میں نے معاف نہیں کرتا۔
مقام شکر ہے صوفی خدا کے ہاتھ میں ہے روزی
اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا

دینی کاموں میں رکاوٹیں

حدیث پاک میں آیا ہے کہ قریب قیامت میں ایسا وقت بھی ہوگا کہ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مگر جو بندہ ہمت اور کوشش کر کے دسویں حصے پر بھی عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا عمل کرنے والوں کے ساتھ اس کا حشر فرما دیں گے۔ آج ہم ایسے ہی دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیکھیں، ہر طرف سے رکاوٹیں سامنے آئیں گی۔

..... ماں رکاوٹ بنے گی۔

..... باپ رکاوٹ بنے گا۔

..... بیوی رکاوٹ بنے گی۔

..... پڑوسی رکاوٹ بنے گا۔

..... بلکہ ہر بندہ رکاوٹ بنے گا۔ الا ماشاء اللہ۔

جب نفس اور شیطان کی رکاوٹوں کے علاوہ اتنی اور بھی رکاوٹیں ہوں گی تو پھر دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر.....

(۱)..... ہماری جماعت کے ایک دوست ہیں۔ ان کی بہن عالمہ تھی۔ اس کا خاوند

اس کا حقیقی کزن تھا اور اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اگر تم

نے میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں برقعے کے بغیر رہنا ہوگا۔ چونکہ لڑکی عالمہ تھی اور

اس کی Personality (شخصیت) بہت ہی خوبصورت تھی، اس لئے اس نے دو

ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ جو مرضی ہو جائے میں برقعہ نہیں اتاروں گی۔ بس اس بات

کی وجہ سے اس نے اسے طلاق دے کر انگلینڈ سے پاکستان واپس بھیج دیا۔
 (۲)..... اٹھ یا کی ایک لڑکی عالمہ تھی۔ اس کی شادی کینیڈا میں ایک لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ اس لڑکی نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ جب میں خاوند کے ساتھ وہاں گئی تو اس نے مجھے تیسرے دن کہا کہ تم پر وہ اتار دو اور میرے ساتھ ڈانس کلب چلو۔ ماں باپ نے شادی تو کر دی مگر وہ مجبور ہے، کرے تو کیا کرے۔

(۳)..... ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے نوجوانی میں ہی سنت کے مطابق داڑھی رکھنے اور پگڑی باندھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن اس کی والدہ ناراض تھی۔ وہ ماں باپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے گیا۔ ابھی مکہ مکرمہ پہنچے ہی تھے کہ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے کہ جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ باپ نے کہا کہ میں یہ دعا مانگوں گا، اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ دعا مانگوں گا اور جب ماں سے پوچھا تو ماں کہنے لگی کہ میں تو بیت اللہ شریف کو دیکھ کر یہ دعا مانگوں گی کہ میرا بیٹا پگڑی باندھنا چھوڑ دے..... (استغفر اللہ)..... اب بتائیں کہ جس لڑکے نے یہ وضع قطع اپنائی ہوگی اس نے اپنے نفس کے ساتھ کتنا مجاہدہ کیا ہوگا۔ وہ اتنا مجاہدہ کر کے دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ماں اس کے بارے میں اس تمنا کا اظہار کرتی ہے۔

چونکہ اس وقت ضلالت والی تجلیات عروج پر ہیں، اس لئے دین پر عمل کرنے والوں اور دین کا کام کرنے والوں میں بھی کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم کوتاہیاں کرنے لگ جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوتاہیوں سے معافی مانگ کر اپنی طرف سے اچھا بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے لئے فائدہ اسی میں ہے کہ اگر گرتے پڑتے بھی ایمان بچا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کامل ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمادیں گے۔ رکاوٹیں تو بہت سی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ

نے کام آسان کر دیا ہے۔

کم یابی کے دور میں چیز کی قدر و قیمت

ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جس دور میں کوئی جنس نہ ملتی ہو اس دور میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیزن میں ہمارے پاس خوبصورت ٹمائٹ تھے۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے جاپانی پھل ہوتے ہیں۔ ذائقے میں اتنے اچھے تھے کہ قریب کی آبادی کے لوگ اپنے مہمانوں کو پھل کھلانے کی بجائے ٹمائٹ لے کر کھلاتے تھے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ ہمارے بچوں نے کہا، ابو! ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آجاؤ۔ حبیب اللہ اور سیف اللہ دونوں نے وہاں سے کھانا اٹھایا اور یہاں آگئے۔ یہاں دسترخوان لگایا گیا۔ اللہ کی شان کہ اسی وقت کسی نے باہر سے ٹمائٹ بھیج دیئے۔ جب ہم نے وہ ٹمائٹ کھانے شروع کر دیئے تو کھانا پڑا ہا اور وہ ٹمائٹوں سے پیٹ بھر کر چلے گئے۔

شکل اور ذائقے میں تو وہ اتنے اچھے تھے لیکن جب انہیں منڈی میں لے کر جاتے تو ہم سے کوئی دو روپے کلو بھی نہیں خریدتا تھا۔ کئی مرتبہ تو ایک روپے کلو بھی دینے پڑتے تھے۔ اس لئے کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جب ٹمائٹ عام ہو گئے تھے۔ اس کے بعد دو مہینے پہلے ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ جب ٹمائٹ کی فصل نہیں تھی۔ اس وقت ٹمائٹ کی قیمت یہاں سو روپیہ فی کلو اور کراچی میں ڈیڑھ سو روپیہ فی کلو تھی۔ جو ایک روپے کلو بھی کوئی نہیں خریدتا تھا، ڈیڑھ روپے کلو بھی کوئی نہیں خریدتا تھا اب وہی ٹمائٹ ڈیڑھ سو روپے کلو فروخت ہوئے۔ ہمارے ایک ساتھی وہاں تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے چاہا کہ جو ٹمائٹ ڈیڑھ سو روپے کلو تک رہے ہیں میں ذرا ان کی شکل تو دیکھوں۔ جب میں نے شکل دیکھی تو یہ وہ ٹمائٹ تھے جن کو ہم لوگ سیزن کے اندر گڑھے میں دبا

دیا کرتے تھے۔

بالکل یہی مثال ہے کہ آج کے دور میں وہ خیر والے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اب اس وقت جو ہم جیسا Rejected قسم کا مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈیڑھ سو روپے کلو کے حساب سے بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔

بدگمانی سے بچیں

پار رکھیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جتنا بھی غافل ہے آپ اس سے نفرت نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نفرت نہیں فرما رہے تو ہمیں بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،

قل یعبادی (اے محبوب!) کہہ دیجئے کہ میرے بندو.....

جب اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنی بندگی سے نہیں نکالا تو پھر ہم اسے کیوں نکال دیتے ہیں۔ لہذا ہر کلمہ گو سے محبت رکھیں، اس کی عزت و احترام کریں۔ ٹھیک ہے کہ وہ اب غافل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں۔ اگر توبہ کی درخواست آپ نے قبول کرنی ہے تو پھر تو واقعی خطرہ ہے اور جب پروردگار نے یہ درخواست قبول کرنی ہے تو پھر آپ کو کیا مصیبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کریں۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں کم ہوتی ہیں اور کسی میں زیادہ۔ فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنی باریک چھاننی سے کیوں چھانتے ہو۔ انسان کا تو یہ حال ہے کہ اسے دوسروں کے عیبوں کا شک ہو جائے تو ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے نفس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لہذا اس دور میں ہم نہ تو مسلمانوں سے بدگمان ہوں اور نہ ہی اسلام اور علماء سے بدگمان ہوں۔ بلکہ حسن ظن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اسی حسن

ظن کے صدقے بالآخر ایمان پر خاتمہ فرمادیں گے۔

اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمانی.....!!!

بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، شکوے کرنے والے خدا سے بھی راضی نہیں ہوتے، انہوں نے بندوں سے کیا راضی ہوتا ہے۔..... نقل کفر کفر نباشد..... ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میں **Favouritism** بہت ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ بس وہ دائرہ می والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور دوسروں کی تو سنتا ہی نہیں..... استغفر اللہ..... اس میں اتنی جرأت اس لئے آئی کہ اس میں شر غالب آچکا تھا۔

اصول یہ ہے کہ ہر بندے میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی۔ اگر کسی کی خیر غالب ہو اور شر دبا ہوا ہو تو وہ اچھا بندہ ہے اور اگر کسی میں خیر کم ہے اور اس پر شر غالب ہے اور وہ اللہ کے بندوں کے لئے مصیبت بنا ہوا ہے تو وہ برا بندہ ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آجائے گی تو سب کے بارے میں حسن ظن آجائے گا۔

بدظن کرنے کی ناکام کوشش

حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ وہ کسی عورت کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو گیا۔ جب اس کے بارے میں اس کے کسی مخالف کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے اب بات ہوئی، میں جا کر حاجی صاحب سے بات کرتا ہوں کہ وہ جو تمہارا چہیتا ہے اس کے یہ کروت ہیں۔ چنانچہ وہ حاجی صاحب کے پاس گیا اور کہا، حضرت! وہ جو آپ کے ساتھ بڑی محبت کے دعوے کرتا ہے اس نے تو یہ کبیرہ گناہ کیا ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا، اچھا، لگتا ہے کہ اس وقت اس پر اللہ تعالیٰ کی گمراہ کرنے والی تجلی کا اثر ہو گیا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اس آدمی کو کوئی دوسری

بات کرنے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔

نوید مسرت

بھئی! بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے محبوب ﷺ سے اور اللہ کے دین اسلام سے راضی رہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

[میں راضی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے! اسلام میرا دین ہے اور

محمد ﷺ میرے نبی ہیں]

جب ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ یہ ہمارے لئے نوید مسرت ہے۔ لہذا ہر بندہ خیر کے راستے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر اس نے موت سے پہلے پہلے نیکی والی زندگی کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ دنیا والے تو دروازے بند کر دیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے دروازے بند نہیں کئے۔ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کسی کے لئے اپنے دروازے بند نہیں کرتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

واخرو دعوتنا ان الحمد لله رب العلمين .



حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی علیہ السلام کی دیگر کتب

- خطبات فقیر (بارہ جلدیں)
- مجالس فقیر (پانچ جلدیں)
- مکتوبات فقیر
- حیات حبیب (سوانح حیات)
- عشق الہی
- عشق رسول ﷺ
- باادب بانصیب
- لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند (سفر نامہ)
- قرآن مجید کے ادبی اسرار و رموز
- نماز کے اسرار و رموز
- رہے سلامت تمہاری نسبت
- موت کی تیاری
- کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے
- پریشانیوں کا حل
- دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات
- محسنین اسلام
- حیا اور پاکدامنی

مکتبۃ الفقیر 223 سنت پورہ فیصل آباد

مکتبۃ الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

● معہد الفقیر الاسلامی ٹوبہ روڈ بانی پاس جھنگ 0471-622832,625454

● معہد الفقیر، گلشن بلاک، اقبال ٹاؤن لاہور 042-5426246

● جامعہ دارالہدیٰ، جدید آبادی، ہنوں 0928-621966

● دارالمطالعہ، نزد پرانی ٹیکسی، حاصل پور 0696-42059

● ادارہ اسلامیات، 190 انارکلی لاہور 7353255

● مکتبہ مجددیہ، اردو بازار لاہور

● مکتبہ رشیدیہ، راجہ بازار راولپنڈی

● اسلامی کتب خانہ، بنوری ٹاؤن کراچی

● مکتبہ قاسمیہ، بنوری ٹاؤن، کراچی

● دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی

● ادارہ تالیفات اشرقیہ، اشرقیہ منزل، فوارہ چوک ملتان 061-540513

● مکتبہ امدادیہ نزد خیر المدارس، ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان 061-544965

● مکتبہ حضرت مولانا بیروز القطار احمد رضا علی بن بازار، سرائے نورنگ PP 09261-350364

● حضرت مولانا قاسم منصور صاحب ٹیپو مارکیٹ، مسجد اسامہ بن زید، اسلام آباد 051-2262956

● جامعۃ الصالحات، محبوب شریٹ، ڈھوک مستقیم روڈ، بیروہ عالی موڈ پشاور روڈ راولپنڈی

مکتبۃ الفقیر 223 سنت پورہ فیصل آباد